


# شریعت کے احکام

مطابق فتاویٰ

حضرت آیة اللہ سید علی حسین سیستانی دام خلده العالی



جامعہ تعلیمات اسلامی پاکستان

# شریعت کے احکام

(بڑے بچوں کے لیے)

سید نور حبیب (لہجی)  
۲۳۔ ۷۔ ۲۰۱۵

مطابق فتاویٰ

حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی حسین سیستانی دام ظلہ العالم

محمد علی بک ایجنسی (اسلامی ثقافتی مرکز)

نامہ صادق ۹/۲ G-۱۰ اسلام آباد - ۰۳۲۱-۵۲۹۱۹۲۱

نامہ مکالمہ سینئر ۰۳۲۱-۵۲۹۱۹۲۲

فون: ۰۳۴۳-۰۰۱۶۱۱، ۰۳۴۳-۴۷۷۰۴۵



جامعہ تعلیماتِ اسلامی پاکستان  
پوسٹ بکس ۵۳۲۵ - گراجی - پاکستان

الاحكام الشرعية	.....	عربي كتاب
محمد تقى الحسينى الجلاوى	.....	تأليف
مستجاب احمد النصارى	.....	ترجمه
رضا حسين رضوانى	.....	نظر ثانى
ذاكر حسين درانى	.....	همكاران
سيد تابش رضوى	.....	
١٣٣٢هـ - ٢٠١٢ء	.....	طبع اول
محراب پر لیں کراچی	.....	طبع

# کچھ اپنے بارے میں

حضرت آیت اللہ العظیٰ آقاۓ خوئی رضوان اللہ علیہ کا قائم کردہ یہ مین الاقوامی ادارہ جامعہ تعلیمات اسلامی اب حضرت آیت اللہ العظیٰ سید علی حسین سیستانی دام ظلہ الوارف کی سرپرستی میں دنیا بھر میں معتبر اسلامی لٹریچر پرسروام تک پہنچانے میں کوشش ہے۔ اس ادارے کا مقصد دور حاضر کی روحانی ضروریات کو پورا کرنا، لوگوں کو محکم اسلامی علوم کی طرف متوجہ کرانا ہے جو ہلبیت رسول نے ایک مقدس امانت کے طور پر ہمارے پروردگاری ہے۔

یہ ادارہ اب تک اردو اور انگریزی زبانوں میں متعدد کتابیں شائع کرچکا ہے جو الحمد للہ اپنے مشمولات، اسلوب بیان اور طباعت کی خوبیوں کی بنا پر فنردوں کتب میں نمایاں مقام حاصل کرچکی ہیں۔ نشر و اشاعت کا یہ سلسلہ انشاء اللہ انسانیت کو صراط مستقیم کی شاخت کرواتا رہے گا۔

اس کے علاوہ ادارہ لہذا تقریباً ۵۰۰ مدارس و مکानات میں زیر تعلیم طلباء کو اسلامی تعلیم کے زیور سے آرائت کرنے میں اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔

دعوت اسلام ایسا نیک کام ہے جس کو فروع دینے کے لیے ہم سب کو باہمی تعاون کرنا چاہیے۔ ادارہ آپ سب کو اس کا بخیر میں شرکت کی دعوت دیتا ہے تاکہ اسلامی تعلیمات کو دنیا بھر میں عام کیا جاسکے۔

خداؤند منان بحق محمد دآل محمد ہم سب پر اپنی برکتیں نازل فرمائے۔

شیخ یوسف علی نفی

وکیل آیت اللہ العظیٰ سیستانی دام ظلہ الوارف

## بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ دین ہے۔ دین اسلام پر عمل کرنا انسان کی نجات کا ضامن ہے۔ عمل کے بغیر کوئی شخص کسی چیز کا حق دار نہیں بن سکتا۔ جنت کا حق دار بننے کے لیے دین کے احکام پر عمل کرنا نہایت ضروری ہے۔ دین کے احکام پر عمل کرنے کے لیے علم فقہ کا جائنا لازمی ہے۔

قرآن مجید فرماتا ہے : جو نیک عمل کرے گا چاہے مرد ہو یا عورت بشرطیکہ وہ صاحب ایمان ہو تو ایسے ہی لوگ جنت میں جائیں گے۔ (سورہ نساء : آیت ۱۲۲) جو شخص نیکی کو پسند اور برائی کو ناپسند کرتا ہے وہ صاحب ایمان ہے اور جو شخص برائی کو ناپسند نہیں کرتا وہ صاحب ایمان نہیں ہے اور جب وہ صاحب ایمان نہیں ہے تو پھر وہ شفاعت کا حق دار بھی نہیں ہے۔

امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے عرض کیا : ”مولا ! میں چاہتا ہوں کہ میرا بیٹا آپ سے حلال اور حرام کے بارے میں پوچھے اور جو چیز ضروری نہیں وہ نہ پوچھے۔“ آپ نے فرمایا : ”کیا لوگوں سے حلال اور حرام سے بہتر بھی کسی چیز کے بارے میں سوال کیا جاسکتا ہے ؟“ (المحسن)

پس ہمیں چاہیے کہ جہنم سے بچنے اور جنت کا حق دار بننے کے لیے خالص ایمان کے ساتھ دین کے احکام پر عمل کریں۔

# فہرست

۱۰	اصل دین
۱۱	توحید
۱۲	صفاتِ ثبوتیہ
۱۳	صفاتِ سلیمانیہ
۱۴	عَدْل
۱۵	نبوت
۱۶	راہامت
۱۷	چودہ مخصوصین کے نام اور آلقاب
۱۸	قیامت
۱۹	فرودع دین
۲۰	فرودع دین کی تعداد
۲۱	فرودع دین پر عمل
۲۲	رجتہاد
۲۳	إحتیاط
۲۴	قلیل
۲۵	احکام طہارت
۲۶	پانی کی اقسام

۲۱	نجاست.....
۲۲	پیشاب، پا خانہ.....
۲۳	مردار.....
۲۴	خون.....
۲۵	کتا اور سور.....
۲۶	شراب.....
۲۷	کافر.....
۲۸	نجاست سے متعلق بعض مسائل.....
۲۹	مطہرات.....
۳۰	پانی.....
۳۱	زمین.....
۳۲	سونج.....
۳۳	إِنْتَهَا.....
۳۴	إِنْقَلَاب.....
۳۵	إِنْقَال.....
۳۶	اسلام.....
۳۷	تعزیت.....
۳۸	عین نجاست کا دور ہوتا.....
۳۹	مسلمان کا غائب ہوتا.....
۴۰	ذبیح کا خون نکل جاتا.....
۴۱	پیشاب پا خانہ سے متعلق مسائل.....
۴۲	احکام و خصوصی.....

۳۲	وضو کے صحیح ہونے کی چند شرائط
۳۳	وضو کے افعال کی ترتیب
۳۴	مُہظلاتِ وضو
۳۵	وضو کے سائل
۳۸	احکام غسل
۳۸	غسل کی اقسام
۳۹	احکام حجّم
۴۰	حجّم کا طریقہ
۴۱	حجّم کے سائل
۴۳	احکام نماز
۴۴	واجب نمازیں
۴۴	یومیہ نمازیں
۴۵	تقدمات نماز
۴۵	نمازوں بخیانہ کے اوقات
۴۶	قبلہ کے احکام
۴۶	سُتر غورت سے متعلق سائل
۴۷	نماز کی جگہ
۴۸	بدن و لباس کی پاکیزگی کے سائل
۴۹	اذان اور اقامۃ
۴۹	اذان
۵۰	اقامت
۵۰	واجبات نماز

.....	واجباتِ رکنی
.....	بُریت
.....	قیام
.....	بُحیرہ الاحرام
.....	قراءات
.....	جہر اور اختفاء
.....	رکوع
.....	بُجود
.....	تشہد
.....	سلام
.....	نماز کی ترتیب
.....	موالات
.....	سلطان نماز
.....	ہلکیات نماز
.....	سجدہ شہو کا طریقہ
.....	سجدہ شہو کے موقع
.....	نماز کے بھولے ہوئے آجزا کی قضا
.....	نماز احتیاط کا طریقہ
.....	مسافر کی نماز
.....	مسافر کے لیے قصر نماز کی شرائط
.....	نماز کی قضا
.....	نماز آیات

۷۲	نماز آیات پڑھنے کا طریقہ
۷۳	پہلی رکعت
۷۴	دوسرا رکعت
۷۵	چند مسحیب نمازیں
۷۶	روزہ
۷۸	مہللاتِ روزہ
۷۹	روزے کے مسائل
۸۰	سفر میں روزے کے مسائل
۸۱	روزت بہال کے مسائل
۸۲	فطرہ کے مسائل
۸۳	حج
۸۴	حج کا وجوہ اور اس کے اعمال
۸۵	زکات
۸۶	زکات کا وجوہ
۸۷	کن چیزوں پر زکات واجب ہے
۸۸	زکات کی مقدار
۸۹	گومند کا نصاب
۹۰	گائے کا نصاب
۹۱	اوٹ کا نصاب
۹۲	سوئے چاندی کا نصاب
۹۳	سوئے کا نصاب
۹۴	چاندی کا نصاب

۹۶	.....	زکات کے مصارف
۱۰۱	.....	ٹس
۱۰۱	.....	ٹس کا وجوب
۱۰۲	.....	ٹس کا نصاب
۱۰۲	.....	برآمدگی کی مقدار
۱۰۳	.....	ٹس کے مسائل
۱۰۸	.....	جہاد
۱۰۹	.....	دفاع
۱۰۹	.....	حمل
۱۱۰	.....	جہاد کے مسائل
۱۱۲	.....	امر بالمعروف و نهى عن المکر
۱۱۳	.....	امر بالمعروف اور نهى عن المکر کی شرائط
۱۱۵	.....	امر بالمعروف اور نهى عن المکر کے درجات
۱۱۵	.....	بعض معروفات
۱۱۶	.....	بعض مکرات
۱۱۷	.....	بعض گناہان کبیرہ
۱۲۱	.....	توّلا و تبرأ
۱۲۵	.....	عقیقہ اور قربانی
۱۲۵	.....	عقیقہ کے مسائل
۱۲۷	.....	قربانی
۱۲۷	.....	قربانی کے مسائل

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## اُصولِ دین

ہر مُکَلَّفٌ مسلمان مرد اور عورت پر قطعی دلیل کے ساتھ اُصولِ دین کو ماننا واجب ہے کیونکہ اس میں تقلید جائز نہیں اور نہ ہی ظن و گمان کافی ہے۔ اُصولِ دین پانچ ہیں: توحید، عدال، نبوت، امامت اور قیامت۔

### (۱) توحید

یہ ایمان رکھنا کہ اللہ ایک ہے اور صرف وہی عبادت کے لائق ہے۔ قرآن مجید میں ہے: **أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَهُنَّ أُنْتُمْ مُسْلِمُونَ** ۝ یعنی تم سب کا معبود خدا ہے واحد ہے تو تم کو چاہیے کہ اس کے فرمان بردار ہو جاؤ۔ (سورہ انبیاء: آیت ۱۰۸)

اللہ کی کئی صفات ہیں۔ ان میں سے کچھ کو صفاتِ ثبوتیہ اور کچھ کو صفاتِ سلسلیہ کہتے ہیں۔ صفاتِ ثبوتیہ وہ صفات ہیں جو اللہ میں پائی جاتی ہیں اور صفاتِ سلسلیہ وہ صفات ہیں جو اللہ میں نہیں پائی جاتیں۔

۱۔ دینی احکام پر عمل کرنے میں بظاہر تکلیف اٹھانی پڑتی ہے اس لیے اسے تکلیف شرعی کہا جاتا ہے اور جو

شخص یہ تکلیف اٹھاتا ہے اسے مُکَلَّف کہا جاتا ہے۔

## صفاتِ ثبوتیہ

- (۱) قدیم: یعنی اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اس کے وجود کا کوئی آغاز نہیں ہے کیونکہ وہ واجبُ الوجود ہے۔
- (۲) قادر: یعنی اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ وہ مجبور نہیں ہے۔
- (۳) عالیہ: یعنی اللہ کائنات کی ہر ہر چیز کو جانتا ہے۔
- (۴) مددِ ک: یعنی اللہ آنکھ کے بغیر دیکھتا اور کان کے بغیر سنتا ہے۔ وہ ہر چیز کو جانتا اور سمجھتا ہے۔
- (۵) حَيٌ: یعنی اللہ زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اس کے لیے موت نہیں ہے۔
- (۶) مُرید: یعنی اللہ صاحبِ ارادہ ہے۔ وہ اپنے کاموں کا خود ارادہ کرتا ہے۔ وہ کوئی کام حالتِ اضطرار میں نہیں کرتا۔
- (۷) مُتكلّم: یعنی اللہ ہر چیز میں کلام پیدا کر سکتا ہے جیسے اس نے حضرت موسیٰ کے لیے درخت سے کلام پیدا کیا۔ وہ کلام کرنے کے لیے زبان، ہوش اور گلے کا محتاج نہیں ہے۔
- (۸) صادق: یعنی اللہ کی باتیں اور اس کے وعدے سب سچے ہیں۔ یہ دنیا صرف اسی کے وعدے پر چل رہی ہے۔

## صفاتِ سَلَبِيَّةٍ

- (۱) مُرْكَبٌ نہیں : یعنی اللہ کسی چیز سے مل کر نہیں بنا کیونکہ سب چیزیں اسی کی بنائی ہوئی ہیں۔
- (۲) مکان نہیں : یعنی اللہ کے لیے کوئی جگہ مخصوص نہیں۔ وہ ہر جگہ نظر و سے غائب اپنی قدرت سے موجود ہے۔
- (۳) محل حوادث نہیں : یعنی اللہ کی حالت بدلتی نہیں۔ وہ درختوں کی طرح اگتا اور بڑھتا نہیں۔ نہ اس کے لیے جوانی ہے نہ بڑھا پا۔ اس پر نیند، بیماری، غم، خوشی اور خوف وغیرہ طاری نہیں ہوتے۔
- (۴) مَرْءَى نہیں : یعنی اللہ دنیا ہو یا آخرت، زمین ہو یا آسمان نہ کبھی دکھائی دیا ہے اور نہ کبھی دکھائی دے گا کیونکہ وہ لا محدود ہے۔
- (۵) محتاج نہیں : یعنی اللہ کو کسی چیز مثلاً کھانے پینے اور روپے پیسے کی احتیاج نہیں۔ وہ غنی مطلق ہے۔ وہ ہماری طرح محتاج نہیں۔
- (۶) شریک نہیں : یعنی اللہ کی ذات اور اس کے کاموں میں کوئی اس کا شریک اور مددگار نہیں۔ کائنات کا نظم اس کے ایک ہونے کی دلیل ہے۔
- (۷) ہُلُول نہیں : یعنی نہ اللہ کسی چیز میں سما سکتا ہے اور نہ کوئی چیز اس میں سما سکتی ہے چنانچہ کوئی اس کا او تار نہیں۔
- (۸) صفتِ زائد برذات نہیں : یعنی اللہ کی کوئی صفت اس کی ذات سے

الگ نہیں۔ ہر صفت اس کی عین ذات ہے۔ ایسا نہیں کہ اللہ کی ذات الگ ہو اور اس کا علم الگ ہو یعنی پہلے وہ لا علم ہوا اور بعد میں علم ہوا ہو۔ اللہ جب سے ہے تب سے عالم ہے۔

حضرت علی علیہ السلام فتح البلاغہ، خطبہ ۷۰ میں فرماتے ہیں:

سُبْحَانَ اللَّهِ! يَا تَيْرِيْ كَائِنَاتٍ جُو هُمْ دِيْكَھُرَهُ ہے ہیں کتنی عظیم الشان ہے۔

اصول کافی جلد اول میں ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا:

”خدا کی ذات کے بارے میں نہ سوچو۔ جب تم اس کی عظمت کو دیکھنا چاہو تو اس کی بنائی ہوئی کائنات اور مخلوقات کی عظمت کو دیکھو۔“

(۲) عَدْل

یہ ایمان رکھنا کہ اللہ عادل ہے اور اس کے تمام کام عَدْل کے مطابق ہوتے ہیں۔ وہ کوئی بُرا کام نہیں کرتا مثلاً ظلم اور کوئی واجب کام ترک نہیں کرتا مثلاً نبیوں کو مبعوث کرنا۔

قرآن مجید میں ہے: شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلِكُ كُلُّهُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قَائِمُتَا بِالْقِسْطِ... یعنی اللہ نے خود اس بات کی گواہی دی ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں نیز فرشتوں اور اہل علم نے بھی یہی گواہی دی ہے۔ وہ انصاف پر قائم ہے۔ (سورہ آل عمران: آیت ۱۸)

إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِنْ قَالَ ذَرَّةً یعنی اللہ ذرا سا بھی ظلم نہیں کرتا۔

(سورہ نساء: آیت ۳۰)

وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرْبَى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمَّهَاتِ رَسُولًا لِيُنَذِّرَنَّ تَمَهارا  
رب بستیوں کو ہلاک نہیں کیا کرتا جب تک ان کے بڑے شہر میں رسول نہ  
بھیج دے۔ (سورہ قصص: آیت ۵۹)

### (۳) نبوٰت

یہ ایمان رکھنا کہ اللہ نے اپنے لطف وَکرم سے بندوں کی ہدایت کے  
لیے ہر قوم اور ہر زمانے میں اپنے نبی بھیجے جیسا کہ قرآن مجید میں آیا ہے:  
وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا لِيُنَذِّرَ هُمْ نَعَمْ نے ہر قوم میں ایک رسول بھیجا۔  
(سورہ نحل: آیت ۳۶) ان میں سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام  
اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ ہیں۔ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ  
سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ نے دنیا میں ایک لاکھ  
چونیں ہزار نبی بھیجے۔ اللہ کے سب نبی گناہوں سے پاک اور معصوم تھے۔  
حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کے دین، دین اسلام پر عمل کرنا انسان کی  
کامیاب زندگی کا ضامن ہے۔

### (۴) امامت

یہ ایمان رکھنا کہ رسول اکرم ﷺ نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے  
بعد امت کی ہدایت کے لئے بارہ امام مقرر فرمائے تھے۔ ان میں سے پہلے  
امام حضرت علی علیہ السلام اور آخری امام حضرت مہدی علیہ السلام ہیں۔

حضرت مہدی علیہ السلام ہمارے زمانے کے امام ہیں۔ امام تمام امور میں رسول اکرم ﷺ کے نائب ہوتے ہیں۔  
اہل بیتؑ کے سب امام بھی گناہوں سے پاک اور معصوم ہوتے ہیں۔

### عِصْمَت

چھوٹے بڑے سب گناہوں سے پاک ہونے کو عِصْمَت کہتے ہیں۔  
سب انبیاء اور ائمہؑ معصوم تھے اور وہ جو بھی بات کہتے تھے وہ حق ہوتی تھی  
اگر ہمیں ان کی باتوں پر یقین نہ ہوتا تو ہم ان پر عمل نہ کرتے۔ وہ اس لیے  
گناہ نہیں کرتے تھے کہ وہ ایمان اور یقین کے انہنائی درجے پر تھے۔  
ہمارے عقیدے کے مطابق انبیاء سلفؓ کے علاوہ معصوم چودہ ہیں  
جن کے نام اور القاب مندرجہ ذیل ہیں:

### چودہ معصومین کے نام اور القاب

	نام	لقب
(۱)	حضرت محمد مصطفیٰ	صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
(۲)	حضرت زہرا ر فاطمہ	سلام اللہ علیہا
(۳)	حضرت امام مرتضیٰ	علیہ السلام
(۴)	حضرت امام مجتبی حسن	علیہ السلام
(۵)	حضرت امام حسین سید الشہداء	علیہ السلام

- (۶) حضرت امام علی زَيْنُ الْعَابِدِينَ علیہ السلام
- (۷) حضرت امام محمد باقر علیہ السلام
- (۸) حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام
- (۹) حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام
- (۱۰) حضرت امام رضا علیہ السلام
- (۱۱) حضرت امام تقیٰ محمد علیہ السلام
- (۱۲) حضرت امام نقیٰ علیہ السلام
- (۱۳) حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام
- (۱۴) حضرت امام محمد مهدی علیہ السلام

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ

## (۵) قیامت

یہ ایمان رکھنا کہ مرنے کے بعد اللہ لوگوں کو ان کے جسموں کے ساتھ دوبارہ زندہ کرے گا۔ قرآن مجید میں ہے : آئُحَسِبُ الْإِنْسَانُ أَنَّنَّ يَجْمَعَ عِظَامَهُ بَلِّي قَدِيرٌ إِنَّ عَلَى أَنْ نُسْتَوِي بَنَائَةً ۝ کیا انسان خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں اکٹھی نہیں کریں گے؟ ضرور کریں گے اور ہم اس بات پر قادر ہیں کہ اس کی پور پور درست کر دیں۔ (سورہ قیامت: آیت ۳-۴)

قیامت کے دن اللہ انسان سے اس کے اچھے بُرے سب اعمال کا حساب لے گا اور پھر ان کو جزا یا سزادے گا جس کے وہ مستحق ہوں گے۔

## فُرُوعِ دِين

فُرُوعِ دِين سے مراد وہ عبادات، مُعاملات اور اخلاق و آداب ہیں جن کی پابندی کرنا ضروری ہے۔

### فُرُوعِ دِين کی تعداد

فُرُوعِ دِين کافی زیادہ ہیں جن میں سے اہم دس ہیں:

- |                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| (۱) نماز                 | (۲) روزہ                   |
| (۳) حج                   | (۴) زکات                   |
| (۵) خُمس                 | (۶) چہاد                   |
| (۷) اَمْرٌ بِالْمَعْرُوف | (۸) نَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَر |
| (۹) تَوَلّ               | (۱۰) تَبَرّا               |

### فُرُوعِ دِين پر عمل

فُرُوعِ دِين پر عمل کرنے کے لیے ان تین ذرائع میں سے کسی ایک

پر عمل کرنا لازمی ہے۔

(۱) اجتہاد (۲) اختیاط (۳) تقلید

### اجتہاد

فقہ کی اصطلاح میں شرعی مسائل کو اس کے بنیادی ذرائع سے جانے کو اجتہاد کہتے ہیں۔ اجتہاد واجبِ کفای ہے یعنی اگر اتنے لوگ مجتہد ہوں جس سے معاشرے کی ضرورت پوری ہو جائے تو دوسرے لوگوں پر سے اجتہاد کی ذمے داری ختم ہو جاتی ہے۔

اجتہاد کے بنیادی ذرائع یہ ہیں:

(۱) قرآن (۲) سنت (۳) اجماع اور (۴) عقل

جو شخص اجتہاد کے درجے پر پہنچ جاتا ہے اسے اصطلاح میں مجتہد یا فقیہ کہتے ہیں۔ مجتہد کے لیے بہت سارے علوم میں مہارت حاصل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ جب انسان مجتہد بن جاتا ہے تو وہ اپنی تحقیق پر عمل کرتا ہے اور اس کے لیے کسی دوسرے کی تقلید حرام ہو جاتی ہے۔ مجتہد معصوم نہیں ہوتا، اس سے غلطی ہو سکتی ہے البتہ وہ پوری دیانتداری سے تحقیق کرتا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ اسے اس کی محنت کا آخر عطا فرمائے گا۔

جو شخص مجتہد نہ ہو اس کے لیے فتویٰ دینا حرام ہے۔

## إحتیاط

اگر کسی مسئلے میں مجتہدین کے فتوؤں میں اختلاف ہو تو سب سے مشکل فتوے پر عمل کرنا احتیاط لے ہے۔ احتیاط پر عمل کرنے سے ذمہ داری کے ادا ہو جانے کا یقین ہو جاتا ہے۔

## تقلید

مجتہد کے فتوے پر اعتماد کرتے ہوئے اس پر عمل کرنے کو تقلید کہتے ہیں۔ جو شخص نہ مجتہد ہو اور نہ ہی احتیاط پر عمل کرتا ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کسی مجتہد کی تقلید کرے۔ تقلید میں واجب، حرام، مستحب اور مکروہ تمام کام شامل ہیں۔ جو شخص تقلید کرتا ہے اس کو مُقلِّد کہتے ہیں اور جس شخص کی تقلید کی جائے اسے مرجع تقلید کہتے ہیں۔ ہمارے زمانے میں آیت اللہ العظمیٰ سید علی حسینی سیستانی مرجع تقلید ہیں۔ یہ کتاب ان کے فتوؤں کے مطابق لکھی گئی ہے۔

مرجع تقلید میں ان شرائط کا ہونا ضروری ہے:

- (۱) بالغ ہو      (۲) مرد ہو      (۳) عاقل ہو
- (۴) عادل ہو      (۵) حلال زادہ ہو      (۶) شیعہ اثنا عشری ہو
- (۷) زندہ ہو (ابتداً مردہ مجتہد کی تقلید نہیں ہو سکتی)۔

۱۔ احتیاط یعنی وہ طریقہ جس سے "عمل" کے مطابق واقعہ ہونے کا یقین حاصل ہو جائے۔

# احکام طہارت

## پانی کی اقسام

پانی کی دو قسمیں ہیں: مُطلق اور مُضاف  
مُطلق وہ عام پانی ہے جو کسی اور چیز کا جزو نہ ہو۔

مُضاف وہ پانی ہے جو کسی چیز سے حاصل کیا جائے مثلاً ناریل کا پانی  
یا کسی دوسری چیز مثلاً مٹی سے آلو دہ پانی۔

مُطلق پانی کی پانچ قسمیں ہیں:

- (۱) گُر پانی (جس کے ظرف کی گنجائش تقریباً ۳۸۳ لیٹر ہو)۔
- (۲) بrstی ہوئی بارش کا پانی۔
- (۳) کنوں وغیرہ کا پانی۔
- (۴) بہتا پانی جیسے نہر، دریا یا چشمے کا پانی۔

(۵) قلیل پانی یعنی وہ پانی جو زمین سے نہ اُبلے اور گر سے کم ہو۔

قليل پاني نجاست کے اس میں گرنے یا نجس چیز کے ساتھ لگ جائے۔ نجس ہو جاتا ہے۔ پانی کی باقی اقسام اس وقت تک نجس نہیں ہوتی۔ جب تک نجاست سے پانی کا مزا یا رنگ یا بُو بدل نہ جائے۔ مُضاف پانی خود پاک ہے لیکن وہ کسی چیز کو پاک نہیں کرتا۔ اگر گُر پانی کے حکم میں ہوتا بھی نجاست سے مل کر نجس ہو جاتا ہے۔

## نجاست

بعض نجاست یہ ہیں:

- |           |            |
|-----------|------------|
| (۱) پیشاب | (۲) پاخانہ |
| (۳) مردار | (۴) خون    |
| (۵) سور   | (۶) کتا    |
| (۷) شراب  | (۸) کافر   |

ان کی تفصیل حسب ذیل ہے:

## (۱و۲) پیشاب، پاخانہ

جس جانور میں یہ شرائط پائی جائیں اس کا پیشاب اور پاخانہ نجس ہے

- (۱) اس جانور کا گوشت حرام ہو جیے بلی، چوہا اور خرگوش وغیرہ لیکن حرام گوشت جانور جن کا خون اچھل کرنہیں نکلتا ان کا پاخانہ پاک ہے۔

اور احتیاط لازم کی بنا پر ان کا پیشاب نجس ہے۔

(۲) وہ پرندہ نہ ہو کیونکہ پرندوں کا پیشاب اور بیٹ پاک ہے لیکن جن پرندوں کا گوشت کھانا حرام ہے مثلاً کتو اورغیرہ ان کے پیشاب اور بیٹ سے پرہیز کرنا بہتر ہے۔

### (۳) مردار

انسان اور اس جاندار کا مردار نجس ہے جس کا خون رگ کاٹنے پر اچھل کر نکلتا ہے خواہ وہ مردار ایسے جانور کا ہی کیوں نہ ہو کہ اگر اس کا تزریکہ کر لیا جاتا تو اس کا گوشت حلال ہوتا۔ جس جاندار کا خون رگ کاٹنے پر اچھل کرنیں نکلتا اس کا مردار پاک ہے جیسے چھپکی، بچھو، مچھلی وغیرہ۔ زندہ جاندار کے جسم کا اگر کوئی عضو کاٹ کر الگ کر دیا جائے بشرطیکہ وہ ایسا عضو ہو جس میں جان ہوتی ہو تو وہ بھی مردار کے حکم میں ہے تاہم بال، سینگ، دانت اور کھڑ وغیرہ میں چونکہ جان نہیں ہوتی اس لیے وہ اگر مردہ جانور کے بھی کاٹ کر الگ کر لیے جائیں تو ناپاک نہیں۔ اسی طرح زندہ جاندار کے جسم سے جو چھپکے، خشکی وغیرہ اترے وہ بھی پاک ہے۔

### (۴) خون

جس جانور کا خون اچھل کر نکلتا ہو اس کا خون نجس ہے خواہ وہ جانور

حلال ہی ہو جیسے گائے، بکری اور مرغی وغیرہ لیکن مجھلی، مچھر اور کھٹل وغیرہ کا خون چونکہ اچھل کرنے میں نکلتا اس لیے پاک ہے۔

### (۶) کتا اور سوڑ

خشکی پر رہنے والے کتے اور سورنجس ہیں۔ ان کے وہ اجزاء بھی نجس ہیں جن میں جان نہیں ہوتی جیسے بال وغیرہ۔

### (۷) شراب

نوٹ: اسپرٹ پاک ہے۔ اسی طرح انگور کا شیرہ بھی پاک ہے خواہ جوش کھانے لگے لیکن اس کا پینا حرام ہے۔ منقٹی، کشمش اور بھجور کا شیرہ نجس اور حرام نہیں خواہ جوش کھانے لگے۔ کھانوں میں اس کا ملانا جائز ہے۔

جو کی شراب جسے بیڑ کہتے ہیں احتیاط واجب ہے کی بنا پر نجس اور حرام ہے۔ وہ جو کا پانی پاک اور حلال ہے جو طبی طریقے سے حاصل کیا جائے اور کسی قسم کے نشے کا سبب نہ بنتا ہو۔

### (۸) کافر

وہ شخص جو اللہ کے وجود کو یا اس کو ایک نہ مانے وہ نجس ہے۔

ا۔ یعنی وہ حکم جو احتیاط کے مطابق ہو اور مجہد نے اس کے ساتھ فتویٰ نہ دیا ہو۔ ایسے مسائل میں مُقلِّد اس مجہد کی تقلید کر سکتا ہے جو آغلَمَ کے بعد علم میں سب سے بڑھ کر ہو۔

وہ شخص جو کسی نبی مثلاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا انکار کرے یا ضروریاتِ دینِ اسلام میں سے کسی ضرورت مثلاً نماز، روزہ، حج وغیرہ کا انکار کرے وہ نجس ہے البتہ اہل کتاب یعنی وہ اُمّتیں (یہودی، عیسائی اور مجومی) جن کے پیغمبروں پر آسمانی کتاب میں اتری ہیں پاک ہیں۔

خارجی اور ناصبی لے نیز غالباً ۳ نجس ہیں۔

## نجاست سے متعلق بعض مسائل

(۱) وہ جانور جو شرعی طریقے سے ذبح نہ کئے ہوں ان کا غیر مسلم ممالک سے درآمد کردہ گوشت اور چربی کھانا حرام ہے مگر ایسے جانوروں کے چڑے میں نماز پڑھنا جائز ہے۔

(۲) غیر مسلم ممالک سے درآمد کردہ جن اشیاء کی طہارت مشکوک ہو ان کو پاک سمجھا جائے گا اس لیے ان اشیاء میں سے اشیائے خوردنی کا کھانا اور لباس کے ساتھ نماز پڑھنا درست ہے۔

(۳) کسی چیز کی نجاست اس طرح ثابت ہوتی ہے کہ آدمی کو خود معلوم ہو یا پھر عادل افراد گواہی دیں یا جس کے قبضے میں وہ چیز ہے وہ کہے

۱۔ وہ لوگ جو اماموں سے دہنسی کا اخبار کریں یا ان کے بارے میں ناسرابات کہیں۔

۲۔ وہ لوگ جو اماموں میں سے کسی امام کو خدا کہیں یا یہ کہیں کہ خدا، امام میں مُطْلُول کر گیا ہے۔

کہ یہ نجس ہے۔

(۴) نجس چیز کا کھانا پینا حرام ہے لیکن اس کا استعمال ایسے کاموں میں جائز ہے جن میں طہارت کی شرط نہ ہو۔

(۵) اختیاط واجب کی بنا پر مُردار کی خرید و فروخت حرام ہے۔ شراب، سور اور غیر شکاری کتنے کی خرید و فروخت بھی جائز نہیں ہے۔ باقی سب نجس اور نجاست سے آلوہ چیزوں کی خرید و فروخت درست ہے بشرطیکہ ان میں کوئی جائز منفعت ہو۔

(۶) مسجد اور اس کے ساز و سامان کو نجس کرنا حرام ہے۔ اگر ان میں سے کوئی چیز نجس ہو جائے تو اسے فوراً پاک کرنا واجب ہے۔

(۷) قرآن مجید نیز رسول پاک اور اماموں کے مزارات کی جو خاک تبرک کے طور پر لی جائے اس کا بھی وہی حکم ہے جو مساجد کے لیے ہے۔

## مُطہرات

جو چیزیں نجاست کو پاک کرتی ہیں ان کو مُطہرات کہا جاتا ہے مثلاً

- |     |             |
|-----|-------------|
| (۱) | پانی        |
| (۲) | زمین        |
| (۳) | سورج        |
| (۴) | استحقالہ    |
| (۵) | انقلاب      |
| (۶) | انتقال      |
| (۷) | تَبَعِيَّةٌ |
| (۸) | اسلام       |

- (۹) عین نجاست کا دور ہونا      (۱۰) مسلمان کا غائب ہونا  
 (۱۱) ذبیحہ کا خون نکل جانا  
 (۱۲) پانی

مطلق پانی پاک ہونے کی صورت میں ہر بخش چیز کو عین نجاست دور ہو جانے پر پاک کرتا ہے خواہ پانی قلیل ہو یا گر ہو یا بارش کا ہو یا جاری ہو عین نجاست کے دور ہو جانے کے بعد ہر قسم کی نجاست دور کرنے کے لیے اسے پانی سے ایک دفعہ دھونا کافی ہے سوائے مندرجہ ذیل صورتوں کے:

(۱) جو برتن شراب کے علاوہ کسی اور چیز سے ناپاک ہو جائے اسے قلیل پانی سے تین مرتبہ دھو یا جائے۔

(۲) اگر کپڑا یا بدن پیشاب سے ناپاک ہو جائے اس کو دو مرتبہ دھو یا جائے چاہے پانی قلیل ہو یا گر۔ اگر جاری پانی ہو تو اس میں ایک مرتبہ دھونا کافی ہے۔ قلیل پانی سے دھوتے وقت کپڑے کو ملنا بھی ضروری ہے یا پھر دھونے کے بعد نچوڑتے وقت ملننا چاہیے۔

(۳) اگر کتنا برتن میں منہ ڈال دے تو پہلے اس برتن کو گیلی مٹی سے مانجھا جائے پھر قلیل یا گر پانی سے دو مرتبہ دھولیا جائے۔

آب قلیل سے دھونے کی صورت میں دھوؤں ہر دفعہ نکال دیا جائے یعنی اگر کپڑا ہے تو ہر بار اسے نچوڑ دیا جائے اور اگر برتن ہے تو اس کا پانی پھینک دیا جائے۔

## (۲) زمین

اس میں مٹی، ریت، کنکریاں، پتھر سب شامل ہیں۔ ان سے پاؤں کا تلوا اور جوتا وغیرہ پاک ہو جاتا ہے۔ اس کی چند شرائط ہیں:

- (۱) زمین پر چلنے یا رگڑ کر پونچھنے سے عین نجاست چھوٹ جائے۔
- (۲) زمین پاک ہو۔
- (۳) زمین خشک ہو۔
- (۴) نجاست زمین سے لگی ہو۔

## (۳) سورج

سورج زمین کو اور ان سب چیزوں کو جو زمین کا حصہ سمجھی جاتی ہیں پاک کر دیتا ہے جیسے مٹی، پتھر اور مائل وغیرہ۔ یہ سب چیزیں دھوپ پڑنے سے پاک ہو جاتی ہیں۔ نیز اپنی جگہ ثابت رہنے والی چیزیں مثلاً عمارت درخت اور دروازے وغیرہ بھی ان شرائط کے ساتھ پاک ہو جاتے ہیں:

- (۱) عین نجاست چھوٹ جائے۔
- (۲) نجاست کی جگہ گیلی ہو۔
- (۳) گیلی جگہ دھوپ سے خشک ہو جائے۔
- (۴) نجس عمارت ایک ہی دفعہ خشک ہو جائے۔
- (۵) بادل یا پردہ حائل نہ ہو۔

## (۴) اِسْتِحَالَة

اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بخس چیز پاک چیز میں بدل جائے جیسے جانور کا گوبر را کھا یا دھواں ہن جائے۔ چنانچہ نجاست میں اُگی ہوئی سب نباتات پاک ہیں۔

## (۵) انقلاب

انقلاب کا مطلب یہ ہے کہ اگر شراب، بُرکہ بن جائے تو وہ بُرکہ پاک ہے خواہ خود بخود بن جائے یا بنا لیا جائے۔

## (۶) انقال

اگر انسان کا یا ایسے حیوان کا خون جو دھار کی صورت میں اچھل کر نکتا ہے مجھر یا کھٹل وغیرہ کے پیٹ میں منتقل ہو جائے تو وہ پاک ہے۔

## (۷) اسلام

اسلام لانے پر کافر کا تمام بدن حتیٰ کہ اس کے بال بھی کفر کی نجاست سے پاک ہو جاتے ہیں۔

## (۸) شَيْعَيْت

شراب کا بُرکہ بن جانے پر شراب کا بُرتن بھی پاک ہو جاتا ہے۔

اسی طرح میت کو غسل دینے کے بعد غسل دینے والے کے ہاتھ اور غسل دینے کی جگہ وغیرہ پاک ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ یہ سب میت کے تابع ہیں۔

### (۹) عین نجاست کا دور ہونا

جانور کا بدن اور انسان کی آنکھ اور منہ کے اندر وہی حصے عین نجاست کے دور ہو جانے سے پاک ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح انسان کے پاخاں مقام بشرطیکہ پاخا نہ پھیلانا نہ ہوتیں پاک پتھروں یا کاغذ وغیرہ سے پوشہ اور صاف کرنے پر پاک ہو جاتا ہے۔

### (۱۰) مسلمان کا غائب ہونا

اگر کسی مسلمان کے کپڑے، بستر وغیرہ ناپاک ہوں اور اس کو بات کا علم بھی ہو لیکن وہ ایک مدت تک غائب رہنے کے بعد پاکی، ناپاک کا خیال کئے بغیر ان چیزوں کو بطور پاک چیزوں کے استعمال کرے تو کا بدن اور یہ چیزیں پاک سمجھی جائیں گی۔

### (۱۱) ذبیحہ کا خون نکل جانا

جب ذبیحہ کا خون معمول کے مطابق نکل جائے تو اس کو کھانا جائز اور جو خون ذبیحہ کے اندر باقی رہ گیا ہے وہ بھی پاک ہے۔

## پیشاب پاخانہ سے متعلق مسائل

- (۱) پیشاب پاخانہ کرتے وقت منه اور پیٹھ قبلے کی طرف کرنا اختیاط لازم ہے کی بنا پر حرام ہے۔
- (۲) پیشاب نکلنے کی جگہ کو قلیل پانی سے ایک مرتبہ دھوایا جائے۔
- (۳) پاخانے کا مقام اس طرح دھوایا جائے کہ عین نجاست دور ہو جائے اور متعدد بار دھونے کی ضرورت نہیں۔

۱۔ لازم کا مطلب بھی واجب ہے۔ اختیاط واجب اور اختیاط لازم میں فرق یہ ہے کہ اگر مجہد کی امر کے واجب ہونے کا استفادہ آیات اور روایات سے اس طرح کرے کہ اس کا شارع کی طرف منسوب کرنا ممکن ہو تو وہ لفظ واجب استعمال کرتا ہے اور اگر وہ اس کے وجوب کو اس طرح سمجھا ہو کہ اس کا شارع کی طرف منسوب کرنا ممکن نہ ہو مثلاً عقلی دلائل سے سمجھا ہو تو اس کے لئے لفظ لازم استعمال کرتا ہے۔

## احکام وضو

قرآن مجید فرماتا ہے:

لَيَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ  
وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَآرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ  
مُؤْمِنُو! جب تم نماز پڑھنے کے لیے اٹھو تو پہلے اپنے چہروں کو اور کہنیوں  
تک ہاتھوں کو دھولیا کرو اور اپنے سر اور شخنے تک پیروں کا مسح کر لیا کرو۔

(سورہ مائدہ: آیت ۶)

وضو کے صحیح ہونے کی چند شرائط

(۱) پانی پاک ہو۔ (۲) پانی مطلق ہو۔

(۳) پانی غصبی نہ ہو۔ (۴) انسان خود وضو کرے۔

(نوٹ: اگر دوسرا شخص کسی کے چہرے یا ہاتھوں پر پانی ڈالے یا  
سر اور پاؤں کا مسح کرائے تو وضو باطل ہے)۔

(۵) وضو کے اعضاء تک پانی پہنچنے میں کوئی چیز مثلاً بینٹ، نیل یا لش،

گوند اور چکنائی وغیرہ رکاوٹ نہ ہو۔

(۶) وضو کے اعضاء پاک ہوں۔

(۷) قُرْبَةٌ إِلَى اللَّهِ کی نیت ہو۔

(۸) وضو کے لیے پانی استعمال کرنے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو۔

(مثلاً جس شخص کو ڈر ہو کہ وضو کرنے سے بیمار ہو جائے گا یا اس پانی

سے وضو کرے گا تو پیاسا رہ جائے گا، اس پر وضو فرض نہیں ہے۔

اگر اسے علم نہ ہو کہ پانی اس کے لیے نقصان دہ ہے اور وہ وضو کر لے

جبکہ وضو کرنا اس کے لیے واقعی نقصان دہ تھا تو اس کا وضو باطل ہے)۔

(۹) ترتیب (یعنی وضو کے افعال ترتیب وار انجام دے)۔

(۱۰) مُوالات (یعنی وضو کے افعال پے در پے انجام دے)۔

(۱۱) وضو کرنے اور نماز پڑھنے کے لیے وقت کافی ہو۔

## وضو کے افعال کی ترتیب

(۱) چہرے کا دھونا، لمبائی میں سر کے بال اگنے کی جگہ سے ٹھوڑی تک اور چوڑائی میں اتنی جگہ جو انگوٹھے اور نیچ کی انگلی کے پھیلاؤ میں آجائے۔ اس کو اوپر کی طرف سے شروع کر کے نیچے تک دھوئے۔

(۲) داہنے ہاتھ کو کہنی سے لے کر انگلیوں کے سروں تک دھوئے۔ کہنی سے شروع کر کے نیچ کی طرف کو دھوئے۔

- (۳) باسیں ہاتھ کو بھی داہنے ہاتھ کی طرح دھوئے۔
- (۴) سر کے سامنے کا چوتھائی حصہ جو پیشانی سے ملا ہوا ہے اس پر مسح کرے۔ احتیاطِ مستحب لے یہ ہے کہ وضو کی تری سے اوپر سے نیچے کی طرف داہنے ہاتھ سے مسح کرے۔
- (۵) داہنے ہاتھ سے داہنے پاؤں کی کسی بھی ایک انگلی کے سرے سے لے کر ٹخنوں تک اور پھر باسیں ہاتھ سے باسیں پاؤں کی کسی بھی ایک انگلی کے سرے سے لے کر ٹخنوں تک مسح کرے۔

## مُبِطَّلَاتِ وَضْوِي

مُبِطَّلَاتِ وَضْوِي عَنْ وَضْوِي كَوْتُورَنَے والي چند چيزیں یہ ہیں:

- (۱) پیشاب
- (۲) پاخانہ
- (۳) ریاح
- (۴) ایسے بے خبر سونا کہ دیکھ اور سن نہ سکیں۔
- (۵) ہر وہ چیز جو عقل کو زائل کر دے مثلًا دیوانگی اور بیہوشی وغیرہ۔ وضو مستحب ہے مگر چند کاموں کے لیے وضو کرنا واجب ہے:
- (۱) نماز کے لیے اور بھولے ہوئے اجزاء نماز کی قضا کے لیے۔

۱۔ احتیاطِ مستحب فتوے کے علاوہ احتیاط ہے اس لیے اس کا لحاظ ضروری نہیں جو اس

(۲) قرآن مجید کے الفاظ کو چھونے کے لیے۔

نوٹ: اللہ تعالیٰ کے پاک ناموں کو وضو کے بغیر نہ چھوا جائے۔  
بہتر ہے کہ انبیاءؐ کرامؐ اور چودہ معصومینؐ کے ناموں کو بھی وضو کے بغیر نہ چھوا جائے۔

## وضو کے مسائل

(۱) جس شخص کے اعضاؐ وضو میں سے کسی عضو پر زخم یا پھوڑا ہو یا ٹوٹی ہوئی ہڈی کا منہ کھلا ہو اور پانی استعمال کرنا نقصان کا باعث نہ ہو تو اس کے لیے وضو کرنا اسی طرح ضروری ہے جیسے عام طور پر کیا جاتا ہے۔ اگر کسی شخص کے چہرے اور ہاتھوں پر زخم یا پھوڑا ہو یا چہرے یا ہاتھوں کی ٹوٹی ہوئی ہڈی کا منہ کھلا ہو اور اس پر پانی ڈالنا نقصان دہ ہو تو اسے زخم یا پھوڑے کے آس پاس کا حصہ اس طرح اوپر سے نیچے کی طرف دھونا چاہیے جیسا کہ وضو کے بیان میں بتایا چاچکا ہے۔ بہتر ہے کہ اگر اس پر تر ہاتھ کھینچنا نقصان دہ نہ ہو تو تر ہاتھ اس پر کھینچے اور اس کے بعد پاک کر ڈال اس پر ڈال دے اور گیلا ہاتھ اس کپڑے پر بھی کھینچے۔ البتہ اگر ہڈی ٹوٹی ہوئی ہو تو تمیم کرنا لازم ہے۔ اگر زخم یا پھوڑا یا ٹوٹی ہوئی ہڈی کسی شخص کے سر کے اگلے

حصے یا پاؤں پر ہو اور اس کا منہ کھلا ہو اور وہ اس پر مسح نہ کر سکتے۔ کیونکہ زخم مسح کی پوری جگہ پر پھیلا ہوا ہو یا مسح کی جگہ کا جو حصہ سالم ہو اس پر مسح کرنا بھی اس کی طاقت سے باہر ہو تو اس صورت میں ضروری ہے کہ شیم کرے اور اختیاطِ مستحب کی بنا پر وضو کرے اور پاک کپڑا زخم وغیرہ پر رکھے اور وضو کے پانی کی نسبت سے جو ہاتھوں پر لگی ہو کپڑے پر مسح کرے۔

(۲) جس شخص کو یقین ہو کہ اس نے وضو کیا تھا لیکن اس میں شک ہے کہ اس کا وضو ٹوٹا ہے یا نہیں تو وہ شخص باوضو ہے لیکن جس شخص کو یقین ہو کہ اس کا وضو ٹوٹ گیا ہے مگر اس میں شک ہو کہ اس نے وضو تھا یا نہیں تو وہ وضو کے ٹوٹ جانے کا یقین کرے۔ اور جس کو یقین ہو کہ اس کو حدث بھی ہوا ہے اور اس نے وضو بھی کیا ہے لیکن یہ نہیں کہ دونوں میں سے پہلے کیا بات ہوئی ہے اس پر بھی بے کے حکم کا اطلاق ہوگا یعنی اس کو دوبارہ وضو کرنا ہوگا۔

(۳) ٹھنڈے اور گرم دونوں طرح کے پانی سے وضو کرنا جائز ہے۔

(۴) وضو جب بھی کیا جائے، چاہے نماز کا وقت آنے سے کچھ پہلے، دیر پہلے یا نماز کا وقت ہو جانے کے بعد اگر قربةِ اللہ کی نسبت سے کیا جائے تو صحیح ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ واحد یا مستحب

- ہونے کی نیت کی جائے بلکہ اگر غلطی سے واجب کی نیت کر لے اور بعد میں معلوم ہو کہ ابھی وضو واجب نہیں ہوا تھا تو بھی وضو صحیح ہے۔
- (۵) اگر بدن کو نجاست لگی ہوئی ہو تب بھی وضو صحیح ہے بشرطیکہ اعضاے وضو پاک ہوں۔
- (۶) بڑی نہر اور وسیع زمین میں وضو کرنے جائز ہے اگرچہ وہ کسی کی ذاتی ملکیت ہی کیوں نہ ہو۔
- (۷) وضو کرنے کے کئی اسباب ہوں پھر بھی ایک ہی وضو کافی ہے اور یہی حال غسل کا ہے۔

# احکام غسل

قرآن فرماتا ہے : لَيَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا... وَإِنْ كُثُرْتُمْ جُنُبًا فَأَطْهَرُوا  
 (مومنو!) اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو غسل کرو۔ (سورہ مائدہ: آیت ۶)

## غسل کی اقسام

- غسل کے دو طریقے ہیں : ترتیبی اور ارتیاسی
- ترتیبی غسل کا طریقہ یہ ہے :
- (۱) سر اور گردن کو پوری طرح دھونا۔
  - (۲) بدن کے دائیں حصے کو پوری طرح دھونا۔
  - (۳) بدن کے باکی حصے کو پوری طرح دھونا۔

غسل ارتیاسی کا مطلب ہے کہ غسل کی نیت سے پورے جسم کے ساتھ پانی میں ایک دفعہ ڈبکی لگانا۔

غسل کی بھی وہی شرائط ہیں جو وضو کے صحیح ہونے کی شرائط ہیں مگر

غسلِ ترتیبی میں موالات شرط نہیں۔

# احکام تمیم

قرآن مجید فرماتا ہے :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا... فَلَمَّا تَجَدُوا مَاءً فَتَبَيَّنُوا صَعِيدًا طَيْبًا فَامْسَحُوهُ بِأَبْوْجُو هَكُمْ وَأَيْدِيهِ كُمْ (مومنو!) اگر تم کو پانی نہ ملے تو پاک منی سے تمیم کرو اور اس سے اپنے چہروں اور ہاتھوں پر مسح کرو۔

(سورہ نساء: آیت ۲۳)

جو شخص وضو یا غسل نہ کر سکے اس کے لیے وضو اور غسل کا بدال تمیم ہے۔ اس کی سات صورتیں ہیں جن میں سے بعض یہ ہیں :

- (۱) جب وضو یا غسل کے لیے پانی موجود نہ ہو اس صورت میں پہلے پانی ڈھونڈنا واجب ہے۔

- (۲) پانی کے استعمال پر قدرت نہ ہو یا کسی شرعی وجہ سے پانی کا استعمال ممکن نہ ہو مثلاً پانی کی جگہ غصبی ہو، پانی تک جانا خطرناک ہو، پانی کی قیمت ناقابل برداشت ہو، پانی حاصل کرنے میں سخت دشواری

ہو یا اس کے لیے کسی کا بہت زیادہ احسان اٹھانا پڑتا ہو۔

(۳) اندیشہ ہو کہ پانی کے استعمال سے کوئی ایسی یماری یا تکلیف پیدا ہو جائے گی جس کا تحمل دشوار ہو گا۔

(۴) پانی کو کسی اور کام جیسے نجاست دور کرنے یا کسی کی جان بچانے کے لیے محفوظ رکھنا ضروری ہو۔

(۵) وقت اتنا تنگ ہو کہ وضو یا غسل نہ ہو سکے۔

### تیمُم کا طریقہ

(۱) نیت کے بعد دونوں ہتھیلوں کو ایک ساتھ زمین پر مارے (دونوں ہتھیلوں کا ایک ساتھ زمین پر مارنا احتیاط لازم ہے)۔

(۲) پھر دونوں ہتھیلوں سے بال اُگنے کی جگہ سے شروع کر کے ناک کے اوپر والے سرے تک تمام پیشانی کا مسح کرے۔ اسی طرح احتیاط واجب کی بنا پر پیشانی کے دونوں طرف دونوں ہتھیلوں کو پھیرنا۔ احتیاطِ مستحب یہ ہے کہ ہاتھ ابرو کے اوپر بھی پھیرے جائیں۔

(۳) پھر باعیسی ہاتھ کی ہتھیلی سے داہنے ہاتھ کی پُشت کا پہنچ سے انگلیوں کے سروں تک مسح کرے۔ پھر اسی طرح داہنے ہاتھ کی ہتھیلی سے باعیسی ہاتھ کی پُشت کا پہنچ سے انگلیوں کے سروں تک مسح کرے۔

اِحتیاط مُستحب یہ ہے کہ تمم خواہ وضو کے بد لے ہو یا غسل کے بد لے اسے ترتیب سے کیا جائے یعنی یہ کہ ایک دفعہ ہاتھ زمین پر مارے جائیں اور پیشانی اور ہاتھوں کی پُشت پر پھیرے جائیں اور پھر ایک دفعہ زمین پر مارے جائیں اور ہاتھوں کی پُشت کا مسح کیا جائے۔

## تمم کے مسائل

(۱) مٹی پر، ریت پر، پتھر پر، ڈھیلے سے تمم کرنا جائز ہے مگر پودوں اور دھاتوں سے تمم کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر زمین نہ مل سکے تو فرش یعنی دری اور قالین وغیرہ پر جمع شدہ غبار سے تمم کر لے۔ یہ بھی نہ ہو سکے تو گلی مٹی سے تمم کرے۔

اگر تمم کرنے کی ان چیزوں میں سے کوئی بھی نہ مل سکے تو اِحتیاط مُستحب ہے کہ طہارت کے بغیر ہی نماز پڑھ لے اور واجب ہے کہ بعد میں قضا کرے۔

(۲) تمم کے لیے شرط یہ ہے کہ پانی کے استعمال سے معدود ری ہو، مٹی پاک اور مُباح ہو اور اس میں ملاوٹ نہ ہو اور تمم کی نیت قُرُبَةٌ إِلَى اللَّهِ ہو۔ اس ترتیب کے مطابق ہو جو بتائی جا چکی ہے۔ اِحتیاط اس میں ہے کہ تمم اوپر سے نیچے کی طرف کیا جائے۔ تمم کسی وقٹے کے بغیر پے در پے اور اپنے ارادے اور اختیار سے کیا جائے۔ اعضائے تمم

- پر کوئی ایسی چیز رکاوٹ نہ ہو جس کی وجہ سے مسح نہ کیا جاسکے۔
- (۳) جس نماز کے لیے تم کیا جائے اس کا وقت شروع ہونے سے پہلے تم کیم جائز نہیں۔
- (۴) جس شخص نے تم کر لیا ہواں کے لیے وہ تمام امور جن کی حدث کے سبب ممانعت تھی اس وقت تک جائز ہیں جب تک وہ پانی کے استعمال سے عاجز ہے۔
- (۵) اگر کسی کو کئی وجہ کی بنا پر غسل یا وضو کرنا تھا جو وہ نہیں کر سکا تو ایک ہی تم کیم ان سب کے لیے کافی ہو گا۔

## احکام نماز

مومن ہونے کے لیے عقیدہ کافی ہے مگر آخرت میں کامیابی کے لیے مختلف ذمے داریوں کا ادا کرنا بھی ضروری ہے مثلاً اللہ کی بارگاہ میں خشوع اختیار کیا جائے، غریبوں کو زکات دی جائے، لغویات سے پرہیز کیا جائے، سماجی معاملات جیسے امانت اور عہد و پیمان وغیرہ کا خیال رکھا جائے اور بندگی کے رشتہ کو مضبوط کرنے کے لیے نماز کے اوقات کی پابندی کی جائے۔

فروعِ دین میں سب سے پہلی فرع نماز ہے۔ قرآن مجید فرماتا ہے:

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ○ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاةٍ هُمْ خَشِعُونَ ○ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغُو مُعْرِضُونَ ○ وَالَّذِينَ هُمْ لِلَّزَّكُوكَ فَعَلُوْنَ ○ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَفَظُوْنَ ○ یقیناً کامیابی ہے ان ایمان لانے والوں کے لیے جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں، لغویات سے دور رہتے ہیں، زکات ادا کرتے ہیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔

## واجب نمازیں

(۱) نمازِ خجگانہ

(۲) نمازِ آیات

(۳) نمازِ طواف

(۴) نمازِ میت

(۵) وہ نماز جو نذر یا قسم کے ذریعے اپنے اوپر لازم کر لی جائے۔

(۶) والد کی چھوٹی ہوئی نمازیں کہ بڑے بیٹے پر ان کی قضا واجب ہے۔

## یومیہ نمازیں

(۱) نجیر کی نماز دو رکعت

(۲) ظہر کی نماز چار رکعت

(۳) عصر کی نماز چار رکعت

(۴) مغرب کی نماز تین رکعت

(۵) عشاء کی نماز چار رکعت

## مقدّمات نماز

مقدّمات نماز یعنی وہ چیزیں جن کا اہتمام نماز سے پہلے واجب ہے

(۱) وقت نماز

(۲) نُشْرٌ عورت

(۳) نماز کی جگہ

(۴) بدن ولباس کی طہارت

(۵) وضو یا غسل یا قیمیم کرنے کے حدث دور کرنا

(۶) قبلہ

### نماز پنجگانہ کے اوقات

قرآن کریم میں نماز کے تین اوقات بیان ہوئے ہیں :

**أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسْقِ الْأَيَّلِ وَ قُرْآنَ الْفَجْرِ ...**

نماز پڑھو سورج ڈھلنے سے رات کے اندر ہیرے تک اور فجر کے وقت بھی۔

(سورہ بنی اسرائیل : آیت ۸۷)

اس طرح قرآن نے دو نمازوں کو سورج کے ڈھلنے سے اور دو کو رات کے اندر ہیرے سے اور ایک کو صبح کے وقت سے وابستہ کیا ہے۔

(۱) صبح کی نماز کا وقت صبح صادق ہونے سے لے کر سورج نکلنے تک ہے۔

(۲) ظہرو عصر کی نمازوں کا وقت سورج ڈھلنے سے لے کر غروب تک ہے۔

(۳) مغرب و عشاء کا وقت غروب شرعی یعنی مشرق میں شفق کی سرفی زائل ہونے سے لے کر آدمی رات تک ہے لیکن جو شخص بھول جانے یا سوتے رہ جانے کی وجہ سے نماز نہ پڑھ سکے اس کے لیے ان نمازوں کا وقت صبح صادق تک ہے۔

## قبلہ کے احکام

مندرجہ ذیل حالات میں قبلہ رُخ ہونا واجب ہے:

- (۱) ہر نماز کے لیے سوائے اس مستحب نماز کے جو چلتے ہوئے یا کس سواری پر پڑھی جائے۔
- (۲) جانور ذبح کرتے وقت۔
- (۳) نَزَع کے وقت۔ ایسی حالت میں حاضرین پر احتیاط کی بنا پر واجد ہے کہ میت کو کمر کے بُل یوں لٹائیں کہ اس کے پاؤں کے تلوے قبلے کی طرف ہوں بلکہ آحوطِ اولیٰ یہ ہے کہ اگر ممکن ہو تو وہ شخص خود اپنا منہ قبلے کی طرف کر لے۔

پیشاب، پاخانہ کرتے وقت قبلے کی طرف منہ یا پیٹھ کرنا احتیاطِ لازم کی بنا پر حرام ہے۔

## سَرْعُورَت سے متعلق مسائل

- (۱) نماز، نمازِ احتیاط اور نماز کے بھولے ہوئے اجزا کی قضا میں سَرْعُورَت واجب ہے خواہ کوئی دیکھنے والا نہ ہو یا نماز اندر ہیرے میں پڑھی جائے۔
- (۲) سَرْعُورَت کا مطلب یہ ہے کہ مرد اپنی شرمگاہوں کو چھپائے مگر عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ نماز پڑھتے وقت اپنا سارا بدن حتیٰ کہ

۱۔ آحوطِ اولیٰ یعنی مستحب ہے۔

اور بال بھی ڈھانپے البتہ چہرہ، کلائیوں تک ہاتھ اور مخنوں تک پاؤں  
چھپانا ضروری نہیں ہے۔

(۳) نمازی کے لباس سے متعلق کچھ شرائط:

(۱) احتیاط واجب کی بنا پر لباس مباح ہو یعنی عصبی لباس میں نماز  
جاز نہیں۔

(۲) لباس پاک ہو۔ بخس لباس میں نماز جائز نہیں سوائے ان  
صورتوں کے جو مستثنی ہیں۔

(۳) لباس اچھلنے والا خون رکھنے والے مُردار کے اجزاء سے نہ بنا ہو  
چاہے وہ مُردار ایسا جانور ہو جس کا کھانا حلال ہو یا حرام ہو۔

(۴) سونا پہنا ہوانہ ہو چاہے وہ انگوٹھی ہی کیوں نہ ہو مگر یہ حکم  
مردوں کے لیے ہے۔ عورتوں کے لیے سونا پہنانہ جائز ہے۔

(۵) خالص ریشم کا لباس نہ ہو۔ یہ حکم بھی مردوں کے لیے ہے۔  
عورتوں کے لیے ریشم پہنانا جائز ہے۔

## نماز کی جگہ

- (۱) احتیاط واجب کی بنا پر جگہ مباح ہو۔ عصبی جگہ پر نماز پڑھنا جائز نہیں۔
- (۲) قرار یعنی وہ جگہ ہلتی ہوئی نہ ہو۔ ہلتی ہوئی جگہ پر نماز پڑھنا صحیح نہیں۔
- (۳) جگہ پاک ہو۔

(۴) اگر عورت بھی ساتھ نماز پڑھ رہی ہو تو احتیاط لازم کی بنا پر عورت مرد سے کم از کم اتنا پچھے کھڑی ہو کہ اس کے سجدہ کرنے کی جگہ سجدے کی حالت میں مرد کے گھٹنے کے برابر فاصلے پر ہو۔ یعنی سجدہ گاہ گھٹنوں سے آگئے نہ پڑھے۔

(۵) اگر اہانت کا امکان ہو تو کسی ”معصوم“ کی قبر مبارک سے آگے کھڑے ہو کر نماز نہ پڑھے۔

## بدن ولباس کی پاکیزگی کے مسائل

(۱) نمازی کے بدن کا نجاستوں سے پاک ہونا واجب ہے سوائے ان نجاستوں کے جو معاف ہیں۔ ۱۔

(۲) نمازی کے لباس کا بھی نجاستوں سے پاک ہونا واجب ہے سوائے ان نجاستوں کے جو معاف ہیں۔ ۲۔

نمازی کے لباس کی شرائط کا ذکر پہلے گزر چکا ہے۔

(۳) حدث سے طہارت میں آنے کے لیے وضو یا غسل یا غسل اور وضو اکٹھے یا پھر تمیم کرنا ہوتا ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے:

(۱) حدث اصغر سے طہارت میں آنے کے لیے وضو کافی ہے۔

۱۔ وہ نجاست جو معاف ہیں ان کی تفصیل کے لیے دیکھئے: توضیح المسائل، مسئلہ نمبر ۸۳۵

۲۔ حدث اصغر کے بعد وضو کرنا واجب ہوتا ہے اور حدث اکبر کے بعد غسل کرنا واجب ہوتا ہے۔

(۲) جس پر وضو یا غسل واجب ہو اگر وہ وضو یا غسل نہ کر سکے تو  
تینم کرے۔

## اذان اور اقامت

جب نماز کا وقت شروع ہوتا ہے تو نماز باجماعت ادا کرنے کے لیے  
اذان دی جاتی ہے۔ اذان کے معنی خبر دینا یا اعلان کرنا ہے۔ اذان دینے  
والے کو مُؤذن کہتے ہیں۔ سب سے پہلے مُؤذن حضرت بلال ہیں۔ ہمیں  
چاہیے کہ اذان کی آواز سنتے ہی مسجد پہنچیں اور باجماعت نماز ادا کریں۔  
یومیہ نمازوں کے لیے اذان اور اقامت دونوں مُستحب مُوکدہ ہیں۔

## اذان

الله أكبير	چار مرتبہ
أشهدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	دو مرتبہ
أشهدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ	دو مرتبہ
أشهدُ أَنَّ عَلِيًّا وَلِيُّ اللَّهِ	دو مرتبہ
حَمْدٌ عَلَى الصَّلَاةِ	دو مرتبہ
حَمْدٌ عَلَى الْفَلَاجِ	دو مرتبہ
حَمْدٌ عَلَى خَيْرِ الْعَمَلِ	دو مرتبہ

الله أكابر  
دو مرتبہ

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ  
دو مرتبہ

### اقامت

الله أكابر  
دو مرتبہ

أَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ  
دو مرتبہ

أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ  
دو مرتبہ

أَشْهَدُ أَنَّ عَلَيْهَا وَلِلَّهِ  
دو مرتبہ

حَسَنَ عَلَى الصَّلَاةِ  
دو مرتبہ

حَسَنَ عَلَى الْفَلَاحِ  
دو مرتبہ

حَسَنَ عَلَى خَيْرِ الْعَمَلِ  
دو مرتبہ

قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ  
دو مرتبہ

الله أكابر  
دو مرتبہ

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ  
ایک مرتبہ

### واجبات نماز

(۱) نیت (۲) قیام

(۳) تکبیرۃ الاحرام (۴) قرات

- (۵) ذکر
- (۶) رکوع
- (۷) سجود
- (۸) تشهید
- (۹) سلام
- (۱۰) ترتیب
- (۱۱) موالات

ان افعال میں سے پانچ واجبات رُکنی ہیں یعنی اگر ان میں جان بوجھ کر یا بھولے سے کوئی کمی ہو جائے تو نماز باطل ہو جائے گی۔ ان میں زیادتی کی صورت میں تفصیل کے لیے توضیح المسائل دیکھئے۔

### واجبات رُکنی

- (۱) نیت
- (۲) تکبیرۃُ الاحرام (یا تکبیر تحریمه)
- (۳) قیام متصل برکوع
- (۴) رکوع
- (۵) سجود

### نیت

نماز میں نیت واجب رکنی ہے۔ نیت کا مطلب ہے کسی عمل کے انجام دینے کا قُرْبَةٌ إِلَى اللَّهِ ارادہ کرنا۔ زبان سے نیت کرنا ضروری نہیں نہ یہ نیت کرنا ضروری ہے کہ نماز واجب ہے یا مُسْتَحب۔ صرف اجمالی نیت کر لینا کافی ہے البتہ جو نماز پڑھنی ہو اس کا تعین ضروری ہے۔

### قیام

- (۱) نماز میں قیام واجب رکنی ہے۔ چنانچہ تکبیرۃُ الاحرام کہتے وقت نیز

رکوع سے پہلے والا قیام واجب رکنی ہے۔ قرأت کرتے وقت اور  
تبیحاتِ اربعہ پڑھتے وقت نیز رکوع کے بعد والا قیام واجب غیر  
رکنی ہے۔

(۲) جہاں تک ممکن ہو قیام میں جم کر سیدھا کھڑا ہو اور ہلے جلنہیں۔  
احتیاط واجب یہ ہے کہ دونوں پاؤں پر کھڑا ہو اور کسی چیز کا سہارا نہ لے۔

(۳) اگر پوری طرح کھڑا نہ ہو سکے تو جھک کر ہی نماز پڑھے۔

(۴) اگر بالکل کھڑا نہ ہو سکے تو بیٹھ کر نماز پڑھے۔ اگر بیٹھ کر بھی نہ پڑھ سکے تو احتیاط لازم ہے کہ داہنی کروٹ لیٹ کر قبلہ رُخ ہو کر نماز  
پڑھے۔ اگر داہنی کروٹ نہ لیٹ سکے تو باہمیں کروٹ لیٹ کر اور من  
قبلے کی طرف کر کے نماز پڑھے۔ اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو چت لیٹے اور  
پاؤں کے تلوے قبلے کی طرف رکھے۔

### تکبیرۃُ الاحرام

نماز میں تکبیرۃُ الاحرام واجب رکنی ہے۔

واجب ہے کہ بغیر کسی سہارے کے سیدھا کھڑا ہو کر اللہ اکبر کہہ  
نماز شروع کرے۔

۱۔ واجب غیر رکنی وہ رکن ہیں جن کو اگر غلطی سے انعام نہ دیں تو نماز باطل نہیں ہوتی۔

## قرأت

- (۱) ہر واجب نماز کی پہلی رکعت میں تکبیرۃُ الاحرام کے بعد اور دوسری رکعت میں بھی اولًا سورۃُ حماد اور اس کے بعد ایک اور احتیاط یہ ہے کہ پوری سورت کی قرأت کرے۔
- (۲) سورۃُ فیل اور سورۃُ قریش دونوں مل کر احتیاط کی بنا پر ایک سورت شمار ہوتی ہیں۔ نیز سورۃُ صھی اور سورۃُ الْمُنَثَّرَ بھی مل کر احتیاط کی بنا پر ایک سورت شمار ہوتی ہیں۔
- (۳) تیسرا اور چوتھی رکعت میں نمازی کو اختیار ہے کہ چاہے سورۃُ الحمد پڑھے اور چاہے تو ایک مرتبہ تسبیحاتِ اربعہ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ پڑھ لے اور بہتر ہے کہ تین مرتبہ پڑھے۔ اور تسبیحاتِ اربعہ پڑھنا بہتر ہے۔
- (۴) موالات، ترتیب اور صحیح عربی میں قرأت واجب ہے۔

## جھر اور اخفاء

مرد پر احتیاط کی بنا پر واجب ہے کہ وہ نمازِ صبح، مغرب اور عشاء کی پہلی اور دوسری رکعت میں جھری یعنی بلند آواز سے قرأت کرے لیکن نمازِ مغرب کی تیسرا رکعت اور نمازِ عشاء کی تیسرا اور چوتھی رکعت میں نیز ظہر اور عصر کی سب رکعتوں میں احتیاط کی بنا پر اخفاء یعنی آہستہ قرأت کرے کرے۔

ظہر و عصر کی نمازوں میں پسحِ اللہ والرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ بلند آواز۔ پڑھنا اور جمعہ کے دن ظہر کی پہلی دو رکعتوں میں بلند آواز سے قرأت کر مستحب ہے۔ مستحب تکبیروں، قنوت، رکوع، سُجود، تشہد اور سلام میں اختیار ہے چاہے بلند آواز سے پڑھے چاہے آہستہ پڑھے۔ جہاں مرد کے آہستہ پڑھنا واجب ہے وہاں عورت بھی آہستہ پڑھے اور جہاں مرد لیے بلند آواز سے پڑھنا ضروری ہے وہاں عورت کو بلند یا آہستہ پڑھنے اختیار ہے۔ اگر کوئی نامحرم اس کی آواز سن رہا ہو اور اس کا سننا حرام ہے احتیاط کی بنا پر آہستہ پڑھے۔

## رکوع

نماز میں رکوع واجب رکنی ہے۔

(۱) رکوع کا وقت۔ پہلی دو رکعتوں میں الحمد اور دوسری سورت پڑھنے کے بعد اور آخری دو رکعتوں میں تسبیحاتِ اربعہ کے بعد ہر رکعت میں ایک دفعہ رکوع کرے۔

(۲) رکوع کی کیفیت۔ قیام کے بعد اتنا جھکے کہ ہاتھوں کی انگلیوں انگوٹھوں کے سرے گھٹنوں کو چھونے لگیں۔

(۳) رکوع میں ذکر واجب ہے۔ ذکر سکون کی حالت میں کرے اور ہلے۔ اس کے بعد سراٹھا کر سیدھا کھڑا ہو جائے۔

(۲) نمازی کو اختیار ہے چاہے رکوع میں تین مرتبہ سُبْحَانَ اللَّهِ کہے یا ایک مرتبہ سُبْحَانَ رَبِّ الْعَظِيمِ وَمَحَمْدَةٌ کہے۔ اگر وقت میں گناہش نہ ہو یا اور کوئی ضرورت پیش ہو تو ایک مرتبہ سُبْحَانَ اللَّهِ کہنا کافی ہے۔

### سُجُود

نماز میں سُجُود واجب رُکنی ہے۔

(۱) سجدے کا وقت۔ رکوع کے بعد قیام کرے اور اس کے بعد سجدے میں جائے۔

(۲) ہر رکعت میں دو سجدے ہیں اور ان کے درمیان جلسہ (سکون سے بیٹھنا) ضروری ہے۔

(۳) سُجُود کی کیفیت۔ زمین کی طرف جھکے اور سجدے کے ساتوں اعضاء زمین پر رکھے۔

(۴) سجدے کے سات اعضاء یہ ہیں:

پیشانی— دونوں ہتھیلیاں— دونوں گھٹنے— دونوں پاؤں کے انگوٹھے

(۵) سجدے میں ذکر واجب ہے اور اس حالت میں ہلنا نہیں چاہیے۔ جہاں پیشانی رکھی جائے وہ جگہ گھٹنوں اور پاؤں کے انگوٹھوں کی جگہ سے چار ملی ہوئی انگلیوں سے زیادہ اوپنجی یا پنجی نہ ہو۔

(۶) سجدہ کرنے والے کو اختیار ہے چاہے تو تین مرتبہ سُبْحَانَ اللَّهِ کہے یا

ایک دفعہ سُبْحَانَ رَبِّ الْأَعْلَى وَبِحَمْدِهِ کہے۔ اگر وقت میں گنجائش نہ ہے یا اور کوئی ضرورت ہو تو ایک مرتبہ سُبْحَانَ اللَّهُو کہنا کافی ہے۔

(۷) پیشانی کا زمین سے چھونا واجب ہے یا ایسی چیز پر سجدہ کرے ج زمین سے اُگی ہو مگر کھائی یا پہنی نہ جاتی ہو البتہ کاغذ پر سجدہ کرنا جائز ہے۔ روئی اور کپاس سے بننے کا غذ پر بھی سجدہ کرنا جائز ہے۔

(۸) جہاں پیشانی رکھی جائے اس جگہ کا پاک ہونا شرط ہے باقی اعضاء کے رکھنے کی جگہ کا پاک ہونا ضروری نہیں۔

### تشہد

(۱) تشنید کا وقت۔ ہر نماز میں دوسری رکعت کے دوسرے سجدے کے بعد مغرب کی تیسرا رکعت کے دوسرے سجدے کے بعد اور ظہرین اور عشاء کی نمازوں میں چوتھی رکعت کے دوسرے سجدے کے بعد تشنید میں بیٹھے۔

(۲) تشنید میں جلسہ، ذکر اور سکون واجب ہے۔

(۳) تشنید یہ ہے: أَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا أَعْبُدُهُ وَأَرْسُولُهُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ۔

### سلام

(۱) ہر نماز کے آخر میں سلام کہا جاتا ہے۔

- (۲) اس میں سکون، سلام کا صیغہ پڑھنا اور جلسہ یعنی بیٹھنا واجب ہے۔  
 (۳) سلام کے صیغے:

السلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

السلامُ عَلَيْنَا وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ

السلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

پہلا صیغہ مستحب ہے۔

بعد کے دو میں سے ایک واجب ہے اور اس پر نماز ختم ہو جاتی ہے۔

اگر دوسرا صیغہ کہے تو احتیاط واجب ہے کہ تیسرا صیغہ بھی کہے۔

## نماز کی ترتیب

نماز کے افعال میں حسب ذیل ترتیب واجب ہے:

- (۱) نیت  
 (۲) تکبیرۃ الاحرام حالت قیام میں۔  
 (۳) حالت قیام میں سورۃ الحمد اور اس کے بعد ایک اور سورت کی قراءت۔  
 (۴) اطمینان کے ساتھ رکوع اور ذکر رکوع اور پھر قیام۔  
 (۵) اطمینان کے ساتھ سجده اور ذکر سجود۔ سجدے سے اٹھ کر بیٹھنا۔ پھر اطمینان کے ساتھ دوسرا سجده اور ذکر سجود۔ پھر سجدے سے اٹھ کر بیٹھنا۔  
 (۶) دوسری رکعت میں قیام، الحمد اور سورت کی قراءت۔ اس کے بعد

قتوں کا پڑھنا مستحب ہے۔ قتوں میں جو بھی ذکر اور دعا با آسانی ہو سکے وہ کافی ہے۔ پھر اطمینان کے ساتھ رکوع اور ذکر رکوع رکوع کے بعد قیام۔ پھر پہلی رکعت کی طرح دو سجدے۔ پھر تشهد اگر نماز دو رکعی ہے جیسے صبح کی نماز تو تشهد کے بعد سلام بجا لائے اور نماز ختم کرے۔ اگر نماز تین رکعی یا چار رکعی ہے تو سلام بجا لانے کے بجائے تیسرا رکعت ادا کرے۔

(۷) تیسرا رکعت کے لیے قیام۔ تسبیحاتِ اربعہ یا سورہ الحمد کی قراءات۔

پھر رکوع، پھر دو سجدے۔ دوسرے سجدے سے اللہ کر بیٹھ جائے۔ اگر مغرب کی نماز ہے تو تشهد پڑھ کر سلام کہئے اور نماز ختم کرے لیکن اگر چار رکعی ہے جیسے ظہرین یا نمازِ عشاء تو چوتھی رکعت ادا کرے۔

(۸) چوتھی رکعت کے لیے قیام، تسبیحاتِ اربعہ یا الحمد کی قراءات۔ پھر رکوع

پھر دو سجدے۔ دوسرے سجدے سے اللہ کر بیٹھ جائے۔ پھر تشهد پڑھے، سلام کہئے اور نماز تمام کرے۔

## مُوالات

نماز کے افعال میں مُوالات واجب ہے یعنی یہ افعال پے در پے مسلسل ادا کئے جائیں اور نماز کے اجزاء میں ایسا فاصلہ نہ ہو کہ اہل شرع کی نظر میں نماز کی شکل ہی باقی نہ رہے۔

## مُبِطِلَاتِ نِماز

نماز چند اسباب سے باطل ہو جاتی ہے جو یہ ہیں :

(۱) بعض شرائط کا نہ پایا جانا یعنی ان مقدماتِ نماز میں سے کسی چیز کا نہ پایا جانا جو پہلے بیان ہو چکی ہیں۔

(۲) حدثِ اصغر کا صادر ہونا یعنی وہ امور جن سے وضو کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ ان کا تذکرہ گزر چکا ہے۔ حدثِ اکبر کا صادر ہونا یعنی وہ امور جن سے غسل واجب ہوتا ہے۔ ان کا تذکرہ بھی گزر چکا ہے۔

(۳) عمد़اً بات کرنا خواہ ایک حرف ہی کیوں نہ ہو اور احتیاط کی بنا پر وہ سمجھ میں آئے یا نہ آئے جیسے خود نمازی کا کسی کو سلام کرنا لیکن اگر کوئی دوسرا شخص اسے سلام کرے تو ان ہی الفاظ میں سلام کا جواب دینا واجب ہے۔

(۴) بعض رکعتوں میں شک۔

(۵) کھانا پینا۔

(۶) عمد़اً کسی دنیاوی امر کے لیے رونا۔

(۷) قہقہہ یعنی ایسی ہنسی جس میں آواز نکلے لیکن اگر سہوآہنے یا مسکراتے تو کوئی مضائقہ نہیں۔

(۸) بغیر تقویٰ کے ہاتھ باندھنا۔

- (۹) کوئی ایسا کام کرنا جس سے ظاہر ہو کہ نماز نہیں پڑھ رہا جیسے اچھلنا، کو دنا، تالی بجانا اور ناچنا وغیرہ۔
- (۱۰) قصد اچھرے یا بدن کا دانہ نے بائیں یا چیچھے کی طرف موڑنا۔
- (۱۱) سورہ الحمد پڑھنے کے بعد آمین کہنا۔
- (۱۲) واجب رکنی کو جان بوجھ کر یا بھول کر کم یا زیادہ کرنا۔

### شکیاتِ نماز

شکیاتِ نماز کی ۲۲ صورتیں ہیں:

- (۱) شک لے کی وہ سات صورتیں جن سے نماز باطل ہو جاتی ہے:
- (۲) شک کی وہ صورتیں جن کا اعتبار نہیں کرنا چاہیے اور وہ چھ ہیں۔
- (۳) شک کی وہ صورتیں جن سے نماز صحیح رہتی ہے اور وہ نو ہیں۔
- الف: شک کی وہ سات صورتیں جن سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔
- (۱) دو رکعتی نماز میں شک جیسے صحیح کی نماز اور وہ نماز کہ مسافر پر اس کا قصر کرنا واجب ہو۔
- (۲) تین رکعتی نماز میں شک جیسے مغرب کی نماز۔
- (۳) چار رکعتی نماز میں شک کہ ایک رکعت پڑھی یا زیادہ جیسے ظہرین اور عشاء کی نمازیں۔

(۴) چار رکعتی نماز میں دو سرا سجدہ کرنے سے پہلے شک کہ دو رکعتیں پڑھیں یا زیادہ۔

(۵) چار رکعتی نماز میں شک کہ دو رکعتیں پڑھیں یا پانچ یا دو رکعتیں پڑھیں یا پانچ سے زیادہ۔

(۶) چار رکعتی نماز میں شک کہ تین رکعتیں پڑھیں یا چھ یا یہ شک کہ آیا تین رکعتیں پڑھیں یا چھ سے زیادہ۔

(۷) چار رکعتی نماز میں یہ شک کہ آیا چار رکعتیں پڑھیں یا چھ یا یہ شک کہ آیا چار رکعتیں پڑھیں یا چھ سے زیادہ۔

ب: شک کی وہ چھ صورتیں جن کا اعتبار نہیں کرنا چاہیے:

(۸) موقع گزر جانے کے بعد شک جیسے الحمد پڑھتے ہوئے شک کہ تکمیرۃ الاحرام کہی یا نہیں یا سورت پڑھتے ہوئے شک ہوا کہ الحمد پڑھی یا نہیں یا کوئی آیت پڑھتے ہوئے شک ہوا کہ اس سے پچھلی آیت پڑھی تھی یا نہیں یا آیت کا آخری حصہ پڑھتے ہوئے شک ہوا کہ اس کا ابتدائی حصہ پڑھا تھا یا نہیں یا رکوع میں شک ہوا کہ قرات کی تھی یا نہیں یا سجدہ کرتے ہوئے شک ہوا کہ رکوع کیا تھا یا نہیں یا تشهید میں یا قیام میں یا سلام کے وقت شک ہوا کہ سجدہ کیا تھا یا نہیں یا قیام کی

حالت میں یا سلام کے وقت شک ہوا کہ تشهد پڑھا تھا یا نہیں۔ اگر شک ہو کہ سلام بجا لایا یا نہیں تو اب بجا لائے بشرطیکہ نماز کے خلاف کوئی فعل بھولے سے بھی سرزد نہ ہوا ہو۔ اگر مندرجہ بالا افعال میں سے کسی فعل سے فارغ ہونے کے بعد شک ہو کہ وہ فعل صحیح ادا ہوا یا نہیں تو شک کی پروا نہ کرے خواہ اگلا فعل ابھی شروع بھی نہ کیا ہو بلکہ نماز کو صحیح سمجھ کر پڑھتا رہے۔

(۲) سلام کے بعد شک۔

(۳) وقت گزرنے کے بعد شک۔

(۴) نماز جماعت میں امام یا ماموم کو شک جبکہ دوسرے کو یاد ہے۔ اگر امام کو شک ہو تو ماموم کے حافظے پر اعتماد کرے اور اگر ماموم کو شک ہو تو امام کے حافظے پر اعتماد کرے۔

(۵) نمازِ احتیاط اور مستحب نمازوں میں رکعتوں کی تعداد میں شک۔ نمازی کو اختیار ہے کہ کم تعداد کو صحیح سمجھے یا چاہے تو زیادہ کو بشرطیکہ زیادہ تعداد نماز کو باطل کرنے والی نہ ہو مثلاً تین رکعت۔ کیونکہ مستحب نماز دو رکعت ہی ہوتی ہے۔

(۶) کثیر الشک یعنی بہت زیادہ شکی آدمی کا شک اس معاملے میں

جس میں اسے اکثر شک ہوتا رہتا ہے۔

رج: وہ نو صورتیں جن میں شک صحیح ہے اور تدارک لازم ہے۔ یہ شک فقط چار رکعتی نمازوں میں ہوتا ہے جیسے ظہرین اور مُقیم یعنی غیر مسافر کی نماز عشاء۔

(۱) دوسرے سجدے میں ذکر نکرے دوران یہ شک ہوا کہ دو رکعتیں ہوئیں یا تین۔

حُکم: بنا تین پر رکھے اور چوتھی رکعت پڑھ کر سلام بجا لائے۔  
پھر ایک رکعت نمازِ احتیاط کھڑے ہو کر پڑھے۔

(۲) دوسرے سجدے کے ذکر کے دوران یہ شک ہوا کہ یہ دوسری رکعت تھی یا چوتھی۔

حُکم: بنا چوتھی پر رکھ کر نماز ختم کرے۔ اس کے بعد نمازِ احتیاط دو رکعت کھڑے ہو کر پڑھے۔

(۳) دوسرے سجدے کے ذکر کے دوران یہ شک ہوا کہ دو رکعتیں پڑھیں یا تین یا چار۔

حُکم: بنا چوتھی رکعت پر رکھ کر نماز ختم کرے۔ پھر دو رکعت نمازِ احتیاط کھڑے ہو کر پڑھے اور بعد میں دو رکعت بیٹھ کر پڑھے۔

(۴) کسی بھی موقع پر اگر یہ شک ہو کہ تین رکعتیں ہوئیں یا چار۔

حُکم: پنا چوتھی رکعت پر رکھ کر نماز ختم کرے۔ پھر نماز احتیاط دو رکعتیں بیٹھ کر یا ایک رکعت کھڑے ہو کر پڑھے۔

(۵) دوسرے سجدے کے ذکر کے بعد شک ہوا کہ چار رکعتیں ہوئیں یا پانچ۔

حُکم: پنا چوتھی رکعت پر رکھ کر نماز ختم کرے اور دو سجدہ سہو بجالائے

(۶) حالت قیام میں یہ شک ہوا کہ یہ چوتھی رکعت ہے یا پانچویں۔

حُکم: قیام کو ترک کر کے بیٹھ جائے اور تشهید وسلام پڑھے۔

اب شک کی صورت یہ ہو گئی کہ تین رکعتیں ہوئیں یا چار لہذا شک نمبر ۲ کے حکم پر عمل کرے۔

(۷) قیام کی حالت میں شک ہوا کہ یہ تیسرا رکعت ہے یا پانچویں

حُکم: قیام کو ترک کر کے بیٹھ جائے اور تشهید وسلام پڑھے۔

اب شک یہ رہ جائے گا کہ دو رکعتیں ہوئیں یا چار لہذا شک نمبر ۲ کے حکم پر عمل کرے۔

(۸) قیام کی حالت میں شک ہوا کہ یہ تیسرا رکعت ہے یا چوتھی یا پانچویں۔

حُکم: قیام کو ترک کر کے بیٹھ جائے اور تشهید وسلام پڑھے۔

اب شک یہ رہ جائے گا کہ دو رکعتیں ہوئیں یا تین یا چار لہذا

شک نمبر ۳ کے حکم پر عمل کرے۔

(۹) قیام کی حالت میں شک ہوا کہ یہ پانچویں رکعت ہے یا چھٹی۔  
حُکم: قیام کو ترک کر کے بیٹھ جائے اور تشهد و سلام پڑھے۔

اب شک رہ جائے گا کہ چار رکعتیں ہوئیں یا پانچ۔ لہذا شک نمبر ۵ کے حکم پر عمل کرے۔

نوث (۱): شک نمبر ۲، ۷، ۸ اور ۹ کی صورتوں میں نمازِ احتیاط کے بعد احتیاطِ مستحب کی بنا پر دو سجدہ سہو بھی کرے۔

نوث (۲): جس کو رکعتوں کی تعداد میں شک ہو اگر اس کا ظن کسی ایک طرف غالب ہو جائے تو اپنے اسی ظنِ غالب پر عمل کرے۔

### سجدہ سہو کا طریقہ

نیت اور قصدِ قربت کے بعد دو سجدے پے درپے کرے۔ احتیاطِ لازم یہ ہے کہ سجدہ اسی چیز پر کرے جس پر سجدہ کرنا صحیح ہے۔ تکمیر واجب نہیں بلکہ براہ راست سجدہ کرے۔ بہتر یہ ہے کہ سجدے میں یہ کہے: **بِسْمِ اللَّهِ وَبِاللَّهِ الْسَّلَامُ عَلَيْكَ أَيَّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَّ كَاتِبَهُ** پھر بیٹھ جائے۔ اس کے بعد دوسرا سجدہ کرے اور اس میں بھی وہی کہے جو پہلے سجدے میں کہا تھا۔ اس کے بعد پھر اٹھ کر بیٹھے اور کہے:

**أَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ**

یا

لہذا

وَرَسُولُهُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ。السَّلَامُ عَلَيْكُمْ۔  
اُولیٰ یہ ہے کہ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَّ كَاتِبٍ کا بھی اضافہ کرے۔

### سجدہ سہو کے مواقع

- (۱) نماز پڑھتے ہوئے بھولے سے بات کرے تو احتیاط واجب یہ ہے کہ سجدہ سہو بجالائے۔
- (۲) سلام بے موقع پڑھ لے تو احتیاط واجب یہ ہے کہ سجدہ سہو بجالائے۔
- (۳) تشهد بھول جائے تو سجدہ سہو بجالائے۔
- (۴) دوسرے سجدے کے دوران شک ہو کہ رکعتیں چار ہوئیں یا پانچ یا چار پڑھی ہیں یا چھ تو سجدہ سہو بجالائے۔
- (۵) نماز کے بعد معلوم ہو جائے کہ کوئی چیز کم یا زیادہ ہو گئی ہے جبکہ نماز پر صحیح ہونے کا حکم ہو۔

### نماز کے بھولے ہوئے آجزا کی قضا

- (۱) اگر ایک سجدہ بھول جائے اور وہ سجدہ اگلی رکعت کے رکوع میں جا کر یاد آئے تو نماز کے بعد اس کی قضا واجب ہے۔
- (۲) اگر تشهد بھول جائے اور وہ رکوع کے بعد ہی یاد آئے تو احتیاط مستحب یہ ہے کہ نماز کے بعد اس کی قضا کرے۔
- (۳) قضا میں بدلت کی نیت کرنا واجب ہے اور اس میں وہ سب شرائط ادا

پوری ہوئی ضروری ہیں جو ادا کی نیت کے لیے ضروری تھیں۔

(۲) اگر بھولے ہوئے جزو کی قضا اور اصل نماز کے درمیان کوئی فعل نماز کے منافی انجام دیں تو احتیاط مستحب ہے کہ جزو کی قضا کے بعد نماز دوبارہ پڑھے ورنہ نماز کا اعادہ کرنا ہوگا۔

### نماز احتیاط کا طریقہ

جس شخص پر نماز احتیاط واجب ہو ضروری ہے کہ نماز کے سلام کے فوراً بعد نماز احتیاط کی نیت کرے اور تکبیر کہے، پھر الحمد پڑھے، رکوع اور دو سجدے بجا لائے۔ پس اگر اس پر ایک رکعت نماز احتیاط واجب ہو تو دو سجدوں کے بعد تشہد اور سلام پڑھے۔ اگر اس پر دو رکعت نماز احتیاط واجب ہو تو دو سجدوں کے بعد پہلی رکعت کی طرح ایک اور رکعت بجا لائے اور تشہد کے بعد سلام پڑھے۔

نماز احتیاط میں سورہ اور قنوت نہیں ہیں۔ ضروری ہے کہ اس کی نیت زبان پر نہ لائے اور احتیاط لازم کی بناء پر ضروری ہے کہ یہ نماز آہستہ پڑھے اور احتیاط مستحب یہ ہے کہ اس کی *بِسْمِ اللَّهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ* بھی آہستہ پڑھے۔

نوت: یہ ضروری ہے کہ نماز احتیاط اصل نماز کے فوراً بعد پڑھی جائے اور درمیان میں کوئی فعل نماز کے خلاف نہ ہو ورنہ نماز باطل ہو جائے گی اور احتیاط کی بناء پر اصل نماز کا اعادہ کرنا ہوگا۔

## مسافر کی نماز

مسافر پر چار رکعتی نماز میں قصر واجب ہے یعنی ظہر، عصر اور عشاء نمازوں کو چار رکعت کے بجائے دو رکعت نماز فجر کی طرح ادا کر اس کے لیے قصر کی شرائط کا پورا ہونا ضروری ہے۔ صبح اور مغرب کی نمازوں کو پوری رہیں گی ان میں قصر نہیں ہے۔

## مسافر کے لیے قصر نماز کی شرائط

- (۱) تقریباً ۳۲ کلومیٹر کی مسافت طے کرنے کا قصد ہو۔ یہ مسافر جانے کا یا صرف آنے کا بھی ہو سکتا ہے اور یہ بھی ہو سکتے ہے کہ ۲۲ کلومیٹر جائے اور ۲۲ کلومیٹر واپس آئے۔
- (۲) پوری مسافت طے ہونے تک سفر کا ارادہ باقی رہنا ضروری ہے اگر مسافت طے ہونے سے قبل تذبذب پیدا ہوا یا ارادہ بدل پوری نماز پڑھے۔

- (۳) مسافت طے ہونے سے قبل سفر میں کوئی رکاوٹ پیش نہ آئے راستے میں مسافر کا وطن آگیا یا کسی جگہ دس دن قیام کرنے ارادے سے ٹھہر گیا یا کسی جگہ تین دن تک ٹھہر ا رہا اور یہ کرسکا کہ آگے جاؤں یا نہیں۔ اگر ایسی کوئی صورت ہو تو پوری نماز پڑھے۔ اسی طرح یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ شروع ہی سے ا

کہیں درمیان میں ٹھہر نے یا وطن جانے کا قصد ہو۔

(۳) مسافر ایسا شخص نہ ہو جس کا پیشہ ہی سفر کرنا ہو۔ اس حکم میں وہ شخص بھی داخل ہے جو سفر میں ہی کاروبار کرتا ہے۔ پہلی قسم ڈرامیور، ملاح پھیری کرنے والے تاجر اور بڑھتی، معمار و نقاش وغیرہ کی ہے جو اپنے کام کے سلسلے میں اکثر ایک جگہ سے دوسری جگہ آتے جاتے ہیں۔ دوسری قسم ان لوگوں کی ہے جن کا پیشہ تجارت، ڈاکٹری یا درس دیندہ ریس ہے اور وہ اپنے پیشے کے سلسلے میں اکثر اپنے شہر سے ۲۳ کلو میٹر کے فاصلے تک آتے جاتے رہتے ہیں۔ یہ پہلی اور دوسری قسم کے سب لوگ پوری نماز پڑھیں گے۔

(۴) وہ خانہ بدوش نہ ہو جو عمر بھرا ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا رہتا ہے اور اس کا کوئی مستقل ٹھکانا نہیں ہوتا۔ خانہ بدوشوں کو بغیر قصر کے پوری نماز پڑھنا ہوتی ہے۔ یہی حکم اس شخص کا ہے جو ایک ملک سے دوسرے ملک میں منتقل ہوتا رہتا ہے اور اس کا کوئی خاص وطن نہیں ہوتا۔

(۵) سفر کسی گناہ کی نیت سے نہ کیا ہو مثلاً اس شخص کا سفر جو چوری کرنے یا کسی کو ناحق قتل کرنے یا شراب پینے یا ظالم کی مدد کرنے کے لیے یا کسی اور ایسے ہی مقصد کے لیے سفر کرتا ہے۔

(۶) سفر محض تفریحی شکار کے لیے بھی نہ ہو اگرچہ ایسا سفر حرام نہیں ہے

لیکن ایسے شخص پر جاتے ہوئے پوری نماز پڑھنا واجب ہے۔ البتہ واپسی کا سفر اگر آٹھ فرخ یا زیادہ کا ہو تو وہ قصر نماز پڑھے۔ اگر شکار غذا حاصل کرنے یا تجارت کے مقصد سے ہو تو جاتے ہوئے بھی اور واپس آتے ہوئے بھی قصر نماز پڑھے۔

(۸) وطن سے اتنی دور ہو کہ وہاں کے لوگ دکھائی نہ دیں اور اس کی علامت یہ ہے کہ وہ اہل شہر کونہ دیکھ سکے تو قصر نماز پڑھے۔

نوٹ : مسافر کو اختیار ہے کہ پورے مکہ، مدینہ اور کوفہ نیز امام حسین علیہ السلام کی قبر مطہر سے تقریباً ساڑھے گیارہ میٹر کے اطراف میں چاہے تو قصر نماز پڑھے اور چاہے تو پوری نماز پڑھے۔

### نماز کی قضا

(۱) پانچ یومیہ نمازوں میں سے خواہ جان بوجھ کر یا بھول کر یا سوئے رہنے سے یا کسی اور وجہ سے جو نماز اپنے وقت پر ادا نہ کی ہو یا نماز ادا تو کی لیکن وہ فاسد ہو گئی۔ ان تمام صورتوں میں ہر چھوٹی ہوئی نماز کی قضا واجب ہے۔

(۲) حسب ذیل صورتوں میں قضا واجب نہیں ہے :

الف۔ جو نماز بچپن کے زمانے میں چھوٹ گئی۔

ب۔ جو نماز اصلی کفر کی حالت میں چھوٹ گئی۔

ج۔ جو نماز دیوانگی کی حالت میں چھوٹ گئی ہو۔

د۔ جو نماز بیہوشی کی حالت میں چھوٹ گئی ہو بشرطیکہ بیہوشی پورے وقت رہی ہو۔ اگر خود اپنے فعل سے بیہوش ہوا ہو تو واجب یہ ہے کہ قضا کرے۔

حسب ذیل صورتوں میں قضا واجب ہے:

(۳) جب بچہ بالغ ہو جائے یا دیوانے کو افاقہ ہو جائے یا بیہوش کو ہوش آجائے یا کافر مسلمان ہو جائے تو اگر نماز کے وقت میں اتنی گنجائش ہے کہ وہ ایک رکعت بھی پوری شرائط کے ساتھ پڑھ لے تو نماز واجب ہوگی اور اگر نہیں پڑھے گا تو اس کی قضا کرنی ہوگی۔

(۴) جو نماز ملکف سے مُرتد ہو جانے یا نشے کی حالت میں ہونے کی وجہ سے چھوٹ جائے اس کی قضا واجب ہے۔

(۵) دن، رات، سفر اور حضرت میں سے ہر حال میں قضا جائز ہے۔

(۶) جو نمازیں باپ سے کسی عذر کی بنا پر چھوٹ گئی ہوں احتیاط واجب کی بنا پر بڑے بیٹے پر ان کی قضا واجب ہے۔

(۷) جس کے ذمے واجب نمازیں باقی ہوں وہ نافلہ نمازیں پڑھ سکتا ہے۔

(۸) کسی نماز کی فوری طور پر قضا کرنا واجب نہیں ہے البتہ قضا پڑھنے میں کوتاہی نہ کرے۔

(۹) نماز کی قضا جماعت کے ساتھ بھی جائز ہے۔

(۱۰) جو نمازیں حَضَر میں قضا ہوئیں ان کو پوری پڑھے چاہے اس وقت جب قضا کر رہا ہے سفر میں ہو۔ اسی طرح جو نمازیں سفر میں قضا ہوئی ہیں ان کو قصر کر کے چاہے اس وقت جب قضا کر رہا ہے حَضَر میں ہو۔

(۱۱) اگر متعدد نمازوں میں چھوٹ گئی ہوں تو آن کی قضا میں ترتیب رکھنا واجب نہیں سوائے ان نمازوں کے جو اپنی اصل سے ہی ترتیب دار ہیں جیسے ایک ہی دن کی ظہرین یا مغربین۔ لہذا اگر ایک ہی دن کی ظہر اور عصر کی نمازوں فوت ہوئی ہوں تو ظہر کی نماز پہلے پڑھنا واجب ہے۔ یہی صورت مغرب اور عشاء کی نمازوں کی ہے لیکن اگر ظہر کی نماز ایک دن کی فوت ہوئی اور دن کی تو اختیار ہے جس نماز کو چاہے پہلے پڑھے۔ اسی طرح اگر ایک ہی دن کی صبح کی نماز اور ظہرین کی نمازوں فوت ہوئی ہوں تو صبح کی نماز پہلے پڑھنا ضروری نہیں لیکن ظہر کی نماز عصر کی نماز سے پہلے پڑھنا واجب ہے وعلیٰ لہذا الْقِيَاس۔

(۱۲) یومیہ نمازوں کے علاوہ (عیدین کو چھوڑ کر) دیگر واجب نمازوں کی بھی قضا واجب ہے۔ اگر نذر کردہ کوئی نفل نماز وقتِ معین پر ادا نہ ہوئی ہو تو آخرَ یہ ہے کہ اس کی قضا بھی واجب ہے۔

(۱۲) میت کی طرف سے اجارہ پر نمازیں پڑھانا جائز ہے اور دوسری عبادات کا بھی یہی حکم ہے۔ ابھر کے پڑھنے سے وہ نمازیں میت پر سے ساقط ہو جائیں گی۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ اجارہ میت کے وصی نے، ولی نے، وارث نے یا کسی اور شخص نے کیا ہو۔

### نماز آیات

(۱) نماز آیات جس کے پڑھنے کا طریقہ بعد میں بیان ہوگا، تین چیزوں کی وجہ سے واجب ہوتی ہے:

(۱) سورج گرہن

(۲) چاند گرہن

اگرچہ ان دونوں کے کچھ حصے کو ہی گرہن لگے اور خواہ انسان پر اس کی وجہ سے خوف بھی طاری نہ ہوا ہو۔

(۳) زلزلہ

احتیاط واجب کی بنا پر اگرچہ اس سے کوئی بھی خوفزدہ نہ ہوا ہو البتہ بادلوں کی گرج، بجلی کی کڑک، سرخ و سیاہ آندھی اور انہی جیسی دوسری آسمانی نشانیاں جن سے اکثر لوگ ڈر جائیں اور اسی طرح زمین کے حادثات مثلاً زمین کا دھنس جانا اور پہاڑوں کا گرنا جن سے اکثر لوگ خوفزدہ ہو جاتے ہیں ان صورتوں میں بھی احتیاط مستحب ہے۔

کی بنا پر نماز آیات ترک نہیں کرنا چاہیے ( بلکہ محفوظ جگہ پر پہنچ کر نماز آیات ادا کرنی چاہیے)۔

### نماز آیات پڑھنے کا طریقہ

(۲) یہ نماز دور رکعت ہے۔ اس کی ہر رکعت میں پانچ رکوع ہوتے ہیں جن کی تفصیل یہ ہے:

### پہلی رکعت

(۱) نیت کرنے کے بعد تکبیرۃ الاحرام کے بعد الحمد اور دوسرا سورہ پڑھے۔ پھر رکوع کرے اور سیدھا کھڑا ہو جائے۔

(۲) پھر الحمد اور دوسرا سورہ پڑھے، رکوع کرے اور سیدھا کھڑا ہو جائے۔

(۳) پھر الحمد اور دوسرا سورہ پڑھے، رکوع کرے اور سیدھا کھڑا ہو جائے۔

(۴) پھر الحمد اور دوسرا سورہ پڑھے، رکوع کرے اور سیدھا کھڑا ہو جائے۔

(۵) پھر الحمد اور دوسرا سورہ پڑھے، رکوع کرے اور سیدھا کھڑا ہو جائے۔

(۶) پانچواں رکوع کر کے سیدھا کھڑا ہو جائے۔ پھر زمین کی طرف جھکے، دو سجدے کرے اور کھڑا ہو جائے۔

### دوسری رکعت

(۷) الحمد اور دوسرا سورہ پڑھے، پھر رکوع کرے اور سیدھا کھڑا ہو جائے۔

- (۸) الحمد اور دوسرا سورہ پڑھے، پھر رکوع کرے اور سیدھا کھڑا ہو جائے۔
- (۹) الحمد اور دوسرا سورہ پڑھے، پھر رکوع کرے اور سیدھا کھڑا ہو جائے۔
- (۱۰) الحمد اور دوسرا سورہ پڑھے، پھر رکوع کرے اور سیدھا کھڑا ہو جائے۔
- (۱۱) الحمد اور دوسرا سورہ پڑھے، پھر رکوع کرے اور سیدھا کھڑا ہو جائے۔
- (۱۲) پانچواں رکوع کر کے سیدھا کھڑا ہو جائے اور دو سجدے کرے۔  
اس کے بعد تشهید اور سلام پڑھے۔

- (۳) یہ بھی جائز ہے کہ ایک پورے سورے کو رکوع کی تعداد کے مطابق پانچ حصوں میں تقسیم کر کے ایک رکعت میں پڑھے۔
- (۴) سورج گرہن اور چاند گرہن کی نماز کا وقت گرہن شروع ہونے سے بالکل صاف ہو جانے تک ہے۔ زلزلے وغیرہ کی صورت میں یہ واقعہ پیش آتے ہی نماز پڑھنی چاہیے لیکن اگر نہیں پڑھی تو آخر طبق اولیٰ یہ ہے کہ آخر عمر تک کسی وقت بھی پڑھے۔

- (۵) قرأت کے بعد دوسرے، چوتھے، چھٹے، آٹھویں اور دسویں رکوع سے پہلے قتوت پڑھنا مستحب ہے۔ اس طرح پہلی رکعت میں دو بار اور دوسری رکعت میں تین بار قتوت پڑھی جاتی ہے۔ تاہم اگر صرف دسویں یعنی آخری رکوع سے پہلے ایک بار قتوت پڑھے تو وہ کافی ہے۔
- (۶) نمازِ آیات میں صرف سورج اور چاند گرہن کی نماز جماعت سے

پڑھنا مستحب ہے۔ اس میں یومیہ نماز پنجگانہ کی طرح قرأت کی ذمے داری صرف امام کی ہوگی۔

### چند مستحب نمازوں

(۱) نمازِ عیدین:

عیدین کی نماز امام علیہ السلام کے زمانِ حضور میں واجب اور زمانِ غیبت میں مستحب ہے۔ یہ نماز فُرَادیٰ اور جماعت ہر دو طریقوں سے پڑھی جاسکتی ہے۔

(۲) نمازِ وحشت:

یہ نماز وِ فِنْ میت کے بعد آنے والی پہلی رات میں پڑھی جاتی ہے اور اس کی دو رکعتیں ہیں۔ پہلی رکعت میں الحمد کے بعد آیتُ الکرسی (هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ تک) پڑھے اور دوسری رکعت میں الحمد کے بعد سورہ إِقَادٌ لِنَفَّاذٌ دس مرتبہ پڑھے۔

سلام کے بعد کہے: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَابْعَثْ فَوَابَهَا إِلَيْكُ بُرُوفَلَانِ فلاں کی جگہ میت کا نام ہے۔

(۳) اولِ ماہ کی نماز:

یہ دو رکعتی نماز ہے۔ پہلی رکعت میں الحمد کے بعد ۳۰ مرتبہ سورہ اخلاص

پڑھے اور دوسری رکعت میں الحمد کے بعد ۳۰ مرتبہ سورہ فاتحہ  
پڑھے۔ نماز کے بعد صدقہ دے اس سے پورے مہینے میں آفات  
سے محفوظ رہے گا۔ اس نماز کے بعد کچھ آیات کریمہ کا پڑھنا بھی  
مستحب ہے۔

(۲) نماز غفیلہ :

یہ دو رکعتی نماز ہے جو مغرب اور عشاء کی نمازوں کے درمیان میں  
پڑھی جاتی ہے۔ اس کی پہلی رکعت میں الحمد کے بعد سورہ انبیاء کی  
آیت ۸۷ اور ۸۸ پڑھے:

وَذَا النُّؤُنِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنَّ لَنْ تَقْدِيرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي  
الظُّلُمَتِ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَنَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ○  
فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْعَذَابِ وَكَذَلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ ○

اور دوسری رکعت میں سورہ انعام کی آیت ۵۹ پڑھے:

وَعِنْدَهَا مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَرْعَرِ  
وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَتِ الْأَرْضِ وَلَا  
رَطْبٌ وَلَا يَابِسٌ إِلَّا فِي كِتَابٍ مَبِينٍ ○  
اس کے بعد کہے:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكِ مِنْ فَاتِحِ الْغَيْبِ الَّتِي لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا أَنْتَ أَنْ تُصَلِّيَ

عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَأَنْ تَفْعَلَ بِي كَذَا وَكَذَا  
كَذَا وَكَذَا کی بجائے خدا سے اپنی حاجت طلب کرے۔  
اس کے بعد کہیے:

اللَّهُمَّ أَنْتَ وَلِيُّ نِعْمَاتِي وَالْقَادِرُ عَلَىٰ طَلِبِي تَعْلَمُ حَاجَتِي فَأَسْأَلُك  
بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ لَمَّا قَضَيْتَهَا إِنِّي

اس کے بعد پھر اپنی حاجت طلب کرے۔ اللہ تعالیٰ اس کی حاجت  
بر لائے گا۔

## روزہ

فُرُوعِ دین میں سے روزہ دوسری فرع ہے۔ قرآن مجید میں ہے:

لَيَأْتِهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى النَّاسِ  
مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَقَوَّنَ ○ مونو! تم پر روزے فرض کر دیئے گئے جس  
طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کئے گئے تھے تاکہ تم تقویٰ شعار بن جاؤ۔  
(سورہ بقرہ: آیت ۱۸۳)

روزہ اس انسان پر واجب ہے جس میں یہ شرائط پائی جائیں:

(۱) بلوغ: لڑکی ۹ قمری سال میں بالغ ہو جاتی ہے۔ لڑکے کے بالغ  
ہونے کی نشانی یہ ہے کہ وہ ۱۵ قمری سال کا ہو جائے یا یہ کہ اس  
کی ناف کے نیچے سخت بال آ جائیں۔ نرم ملائم بالوں کے اُگنے سے  
کچھ ثابت نہیں ہوتا۔

(۲) عقل: دیوانے پر روزہ واجب نہیں ہے۔

(۳) ضرر کا اندیشہ ہونا: ضرر کی دو قسمیں ہیں۔ جسمانی اور غیر جسمانی۔

جسمانی ضرر یہ ہے کہ مثلاً کسی بیماری کے پیدا ہونے کا اندیشہ ہو جیسے آشوبِ چشم یا کسی بیماری کے بڑھ جانے کا خوف ہو یا بیماری کے طویل ہو جانے کا خطرہ ہو۔ ان سب صورتوں میں روزہ واجب نہیں ہے لیکن اگر اسی سال کے دوران میں بیماری سے شفایا ب ہو جائے تو پھر اس پر چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا واجب ہے۔

(۴) بیہوٹی سے محفوظ ہونا۔

(۵) وطنِ اصلی یا ایسے وطنِ اقامت وغیرہ میں مقیم ہونا جو وطنِ اصلی کے حکم میں ہے۔ اگر کسی نے رات کو روزے کی نیت کر لی تھی اور ظہر سے قبل ایسا سفر کیا جس میں قصر ہے تو اس کا روزہ درست نہیں۔ اس کے ذمے اس روزے کی قضا ہوگی۔ البتہ اگر کسی نے سفر میں روزے کے حکم سے ناواقفیت کی بنا پر روزہ رکھ لیا اور غروبِ آفتاب کے بعد اسے مسئلے کا علم ہوا تو اس کا روزہ صحیح ہوگا۔ نماز میں قصر کرنے کا بھی یہی حکم ہے۔

## مُبْطَلَاتِ روزہ

مُبْطَلَاتِ روزہ آٹھ ہیں۔ روزہ دار پر واجب ہے کہ وہ ان آٹھ چیزوں سے پرہیز کرے کیونکہ ان سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔

(۱) کھانا اور پینا

(۲) گاڑھا غبار جان بوجھ کر حلق میں پہنچانا۔ غبار چاہے کسی حلال چیز کا ہو جیسے آٹے کا غبار یا حرام چیز کا جیسے ریت، مٹی وغیرہ۔ نیز احتیاط واجب کی بنا پر دھونکیں کا بھی یہی حکم ہے۔

(۳) خود سے قے کرنا چاہے کسی یماری کے علاج کے لیے ہی کیوں نہ ہو۔

(۴) اللہ، رسول پاک ﷺ اور ائمۃ طاہرینؑ سے کوئی جھوٹی بات منسوب کرنا خواہ کوئی دینی امر ہو یا دنیاوی۔ احتیاطِ مستحب یہ ہے کہ حضرت بی بی فاطمہ زہرا و دیگر انبیاء اور اوصیاء سے بھی کوئی جھوٹی بات منسوب نہ کی جائے۔

فائدہ: مذکورہ بالا کام اگر جان بوجھ کر کئے جائیں تو ان سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے جیسا کہ آگے بیان ہوگا۔

## روزے کے مسائل

(۱) سونے سے روزہ باطل نہیں ہوتا خواہ تمام دن سوتا رہے بشرطیکہ رات کو روزے کی نیت کر لی ہو۔

(۲) نیت کرنے کا وقت صحیح صادق تک ہے۔ اس سے پہلے رات کو نیت کر لینا بھی کافی ہے۔ تاہم رمضان کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے پورے مہینے کے روزوں کی ایک دفعہ نیت کر لینا بھی جائز ہے۔

(۳) منہ کا لعب نگلنے میں کوئی حرج نہیں خواہ وہ منہ میں جمع کر کے نگلا

- جائے۔ وہ بلغم جو سینے سے اوپر کو آئے اور دماغ کی رطوبت جوناک سے گلنے میں آئے اس کا بھی یہی حکم ہے لیکن اختیاطِ مستحب یہ ہے کہ اگر بلغم منہ کے اندر آجائے تو اسے نہ نگلے۔
- (۴) مستحب روزہ درست ہونے کے لیے یہ شرط ہے کہ کوئی واجب روزہ انسان کے ذمے باقی نہ ہو۔
- (۵) روزے کے صحیح ہونے کے لیے یہ شرط ہے کہ نیت قُربَةٌ إِلَى اللَّهِ کی ہو اور ریا کاری کے بغیر اخلاق سے روزہ رکھا گیا ہو۔
- (۶) آنکھ یا کان میں دوائی ڈالنے میں کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح انگلشن لگوانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ دانت نکلوانے سے بھی روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔
- (۷) جس نے رمضان میں جان بُوجھ کر روزہ توڑا اس پر قضا اور کفار دونوں واجب ہیں۔ ایک روزے کا کفارہ یہ ہے۔ ایک غلام آزاد کرے یا دو مہینے کے مسلسل روزے رکھے یا ساٹھ مسکینوں کو کھا کھلائے۔ ان تینوں میں سے کوئی ایک عمل کرنے کا اختیار ہے کفارہ اس وقت لازم ہوگا جبکہ روزے دار کو معلوم ہو کہ اس کے افعال سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔
- (۸) جو جان بُوجھ کر روزہ نہ رکھے یا ایسی کسی بیماری کی مجبوری سے روزہ

رکھ سکے جو ایک سال تک چلے تو اس پر صرف روزے کی قضا واجب ہے۔ اگر بیماری ایک سال تک طویل ہو جائے تو پھر قضا نہیں بلکہ ہر روزے کا فدیہ ایک مدد کھانا دے (مدد کی تشریع آگے آرہی ہے)۔

(۹) روزے کا فدیہ دینا حسب ذیل اشخاص پر واجب ہے :

الف : بوڑھا، بُڑھیا اور پیاس کا مریض جنہیں روزہ رکھنا سخت دشوار ہو۔ حاملہ عورت جس کے وضعِ حمل کے دن قریب ہوں ، دودھ پلانے والی عورت جس کو دودھ کم آتا ہو اور بچے کو ضرر پہنچنے کا اندریشہ ہو ان دونوں طرح کی عورتوں پر فدیہ کے علاوہ روزے کی قضا بھی واجب ہے لیکن پیاس کے مریض کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ جب ممکن ہو قضا کرے اور بوڑھے اور بُڑھیا پر بھی قضا نہیں صرف فدیہ ہی ہے۔

ب : وہ شخص جو بیماری کے سبب رمضان میں روزے نہیں رکھ سکا اور بیماری کا سلسلہ اگلے ماہ رمضان تک چلتا رہا تو اس پر قضا نہیں صرف فدیہ واجب ہے جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے۔

ج : وہ شخص جس نے طاقت کے باوجود پچھلے سال کے روزوں کی قضا نہیں کی وہ ہر روزہ کے بد لے ایک فدیہ تاخیری دے۔

(۱۰) فدیہ کی مقدار ایک مدد کھانا ہے جو تقریباً ۵۰۰ گرام ہوتا ہے

کفارے کا طریقہ: فقراء کو کھانا کھلانے، قیمت دے دینا درست نہیں۔

(۱) بڑے بیٹے پر احتیاط لازم کی بنا پر ان روزوں کی قضا واجب ہے جو اس کے باپ سے کسی عذر کی وجہ سے چھوٹ گئے تھے۔ وہ یہ بھی کر سکتا ہے کہ ہر روزہ کے بدلتے ۵۰ گرام کھانا کسی فقیر کو دیدے۔

### سفر میں روزے کے مسائل

(۱) اگر قصر کی وہ شرائط پائی جاتی ہوں جو بیان ہو چکی ہیں تو پھر مسافر کا روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔

(۲) رمضان کے مہینے میں سفر کرنا جائز ہے خواہ وہ سفر روزے سے بچنے ہی کے لیے کیوں نہ کیا جائے مگر ایسا کرنا مکروہ ہے۔

(۳) مسافر کے لیے رمضان المبارک میں دن کے وقت شوقیہ کھانا پینا جائز لیکن مکروہ ہے۔

(۴) مسافر کو روزہ چھوڑ دینے کی اس وقت اجازت ہے جب وہ اپنی بستی سے اتنی دور (یعنی حد ترخیص پر) چلا جائے کہ وہ اہل شہر کونہ دیکھ سکے۔

(۵) رمضان میں مسافر کی روانگی اور واپسی کے مسائل۔

الف: اگر روزے دار ظہر کے بعد سفر کرے تو ضروری ہے کہ احتیاط کی بنا پر اپنے روزے کو پورا کرے اور اس صورت میں اس روزے کی قضا کرنا ضروری نہیں اور اگر ظہر سے پہلے سفر

کرے تو احتیاط کی بنا پر اس دن کا روزہ نہیں رکھ سکتا خصوصاً  
 جب رات ہی سے اس کا ارادہ سفر کرنے کا ہو۔ لیکن ہر  
 صورت میں حد ترخُص تک پہنچنے سے پہلے ایسا کوئی کام نہیں  
 کرنا چاہیے جو روزے کو باطل کرتا ہو ورنہ اس پر گفارہ  
 واجب ہوگا۔

ب: اگر مسافر رمضان میں خواہ وہ نجیر سے پہلے سفر میں ہو یا  
 روزے سے ہو اور سفر کرے اور ظہر سے پہلے اپنے وطن پہنچ  
 جائے یا ایسی جگہ پہنچ جائے جہاں وہ دس دن قیام کرنا چاہتا ہو  
 اور اس نے کوئی ایسا کام نہ کیا ہو جو روزے کو باطل کرتا ہو تو  
 احتیاط کی بنا پر ضروری ہے کہ اس دن کا روزہ رکھے اور اس  
 صورت میں اس روزے کی قضا بھی نہیں اور اگر کوئی ایسا کام  
 کیا ہو جو روزے کو باطل کرتا ہو تو اس دن کا روزہ اس پر  
 واجب نہیں ہے اور ضروری ہے کہ قضا کرے۔

ج: اگر مسافر ظہر کے بعد اپنے وطن پہنچے یا ایسی جگہ پہنچے جہاں  
 دس دن قیام کرنا چاہتا ہو تو احتیاط واجب کی بنا پر اس دن کا  
 روزہ باطل ہے اور ضروری ہے کہ اس کی قضا کرے۔

## روئیتِ ہلال کے مسائل

مہینے کی پہلی تاریخ (مندرجہ ذیل) چار چیزوں سے ثابت ہوتی ہے:

(۱) انسان خود چاند دیکھے۔

(۲) ایک ایسا گروہ جس کے کہنے پر یقین یا اطمینان ہو جائے یہ کہے کہ ہم نے چاند دیکھا ہے اور اس طرح ہزاہ چیز جس کی بدولت یقین آجائے یا کسی عقلی بنیاد پر اطمینان حاصل ہو جائے۔

(۳) دو عادل مرد یہ کہیں کہ ہم نے رات کو چاند دیکھا ہے مگر وہ چاند کے الگ الگ اوصاف بیان کریں تو پہلی تاریخ ثابت نہیں ہوگی اور یہی حکم ہے اگر انسان کو ان کی غلطی کا یقین یا اطمینان ہو یا ان دو عادلوں کی گواہی سے دو اور عادلوں کی گواہی یا اس جیسی کوئی چیز مکرا رہی ہو مثلاً شہر کے بہت سے لوگ چاند دیکھنے کی کوشش کریں مگر دو عادل آدمیوں کے سوا کوئی دوسرا چاند دیکھنے کا دعویٰ نہ کرے یا کچھ لوگ چاند دیکھنے کی کوشش کریں اور ان لوگوں میں سے دو عادل چاند دیکھنے کا دعویٰ کریں اور دوسروں کو چاند نظرناہ آئے حالانکہ ان لوگوں میں دو اور عادل آدمی ایسے ہوں جو چاند کی جگہ پہچانے، نگاہ کی تیزی اور دیگر خصوصیات میں ان پہلے دو عادل آدمیوں کی مانند ہوں، مطلع بھی صاف ہو اور کسی ایسی چیز کے ہونے کا احتمال بھی نہ ہو جو ان کو دکھائی دینے میں رکاوٹ بن سکے تو دو عادل آدمیوں کی

گواہی سے مہینے کی پہلی تاریخ ثابت نہیں ہوگی۔

(۲) شعبان کی پہلی تاریخ سے تیس دن گزر جائیں جن کے گزرنے پر رمضان کی پہلی تاریخ ثابت ہو جاتی ہے اور رمضان کی پہلی تاریخ سے تیس دن گزر جائیں جن کے گزرنے پر شوال کی پہلی تاریخ ثابت ہو جاتی ہے۔

### فطرہ کے مسائل

(۱) ہر اس شخص پر جو عاقل، بالغ، آزاد اور فقیر نہ ہو اس پر واجب ہے کہ وہ فطرہ اپنی طرف سے دے۔ گھروالوں میں چھوٹے بڑے، مسلمان کافر سب شامل ہیں یہاں تک کہ دودھ پینے بچے کی طرف سے بھی فطرہ دے اور اس مہمان کی طرف سے بھی جو چاند ہونے سے پہلے اس کے گھر آگیا ہو بشرطیکہ وہ گھر کے مالک کی رضامندی سے اس کے گھر آیا ہو اور عید کی رات اسی کے یہاں گزارے خواہ کھانا نہ کھائے۔ احتیاط واجب یہ ہے کہ عید کا چاند نظر آجائے کے بعد بھی اگر کوئی مہمان آجائے تو میزبان اس کا فطرہ بھی دے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ گھروالوں میں یہ سب کے سب شامل ہیں۔

(۲) عید کی صبح ہونے کے بعد اگر کسی کو کھانے پر مدعو کیا جائے تو اس کا فطرہ دعوت دینے والے پر نہیں کیونکہ اس شخص کا شمار اسی بالان

والے کے گھر والوں میں نہیں ہے۔

(۳) فطرہ ادا کرنے کا وقت چاند رات سے لے کر عید کے دن ظہر تک ہے۔ احتیاط واجب یہ ہے کہ اگر عید کی نماز پڑھے تو نماز سے قبل فطرہ ادا کردے یا کم از کم الگ کر کے رکھ لے۔

(۴) فطرے کی نوعیت : فطرے میں خوراک میں کام آنے والی چیزیں مثلاً گیہوں، جو، کھجور، چاول اور کشمش وغیرہ دی جاتی ہیں۔ احتیاط لازم یہ ہے کہ فطرے کو ان ہی چار چیزوں تک محدود رکھا جائے بشرطیکہ یہ چیزیں اس جگہ کی عام خوراک ہوں جہاں فطرہ ادا کیا جا رہا ہے۔

(۵) یہ بھی جائز ہے کہ اشیائے خوردنی کی جگہ، وقت اور مقام کے لحاظ سے ان کی نقد قیمت فطرے میں دے دی جائے۔

(۶) فطرے کی مقدار ایک صاع یعنی تقریباً تین کلوگرام فی کس ہے۔

(۷) فطرے کا مَضْرَف بھی وہی ہے جو زکات کا ہے۔ نیز فطرے کے احکام بھی وہی ہیں جو زکات کے ہیں۔

(۸) فطرے کی ادائیگی کے لیے قُرْبَةٌ إِلَى اللَّهِ کی نیت ضروری ہے جیسا کہ مال کی زکات دینے کی صورت میں ہے۔

(۹) جس کا فطرہ کسی دوسرے پر واجب ہو گیا وہ خواہ مالدار ہی کیوں نہ ہواں کے اپنے ذمے سے فطرہ ساقط ہو جاتا ہے۔

(۱۰) احتیاطِ مستحب ہے کہ کسی غریب کو ایک صاع سے کم نہ دیا جائے جو

تین کلوگرام کے مساوی ہے۔ البتہ اگر غریبوں کی زیادہ تعداد جمع ہو جائے تو کم بھی دیا جاسکتا ہے۔ نیز ایک غریب کو کئی صاع بھی دیئے جاسکتے ہیں۔

(۱۱) مستحب ہے کہ زکات دینے میں اپنے رشتے داروں اور ہمسایوں کو دوسرے لوگوں پر ترجیح دے۔ مناسب یہ ہے کہ اہل علم و فضل اور دین دار لوگوں کو بھی دوسروں پر ترجیح دے۔

(۱۲) جس شخص کے پاس صرف اندازاً ایک صاع گیہوں یا اس جیسی کوئی جنس ہواں کے لیے مستحب ہے کہ فطرہ دے اور اگر اس کے اہل و عیال بھی ہوں اور وہ ان کا فطرہ بھی دینا چاہتا ہو تو وہ ایسا کر سکتا ہے کہ فطرے کی نیت سے ایک صاع گیہوں وغیرہ اپنے اہل و عیال میں سے کسی ایک کو دیدے اور وہ بھی اسی نیت سے دوسرے کو دیدے اور وہ اسی طرح دیتے رہیں حتیٰ کہ وہ جنس خاندان کے آخری فرد تک پہنچ جائے اور احتیاطِ مستحب یہ ہے کہ جو چیز آخری فرد کو ملے وہ کسی ایسے شخص کو دے جو خود ان لوگوں میں سے نہ ہو جنھوں نے فطرہ ایک دوسرے کو دیا ہے اور اگر ان لوگوں میں سے کوئی نابالغ یا پاگل ہو تو اس کا ولی اس کی بجائے فطرہ لے سکتا ہے اور احتیاطِ مستحب ہے کہ وہ چیز اس کی نیت سے نہ لے بلکہ اپنے لے لے

# حج

حج فروع دین میں سے تیسرا فرع ہے۔ حج اركانِ دین میں سے ایک رکن ہے اور اس کی فرضیت کا انکار اگر کسی شہر کی بنا پر نہ ہو تو کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے : وَلَيُؤْعَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ۝ لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ جو اس گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے۔ اور جو کوئی اس حکم کی پیروی سے انکار کرے تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے۔ (سورہ آل عمران: آیت ۹۷)

شیخ کلبینی نے اصول کافی، کتاب الحج میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے بطریق معتبر روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا:

”جو شخص حج کئے بغیر مر گیا حالانکہ اسے نہ کوئی مجبوری تھی نہ کوئی ایسی بیماری جس کے سبب حج میں دشواری ہو اور نہ بادشاہ کی طرف سے کوئی رکاوٹ تھی تو وہ یہودی یا نصرانی ہو کر مرا۔“

## حج کا وجوب اور اس کے اعمال

حج ہر مُکْلَف عاقل ، بالغ ، آزاد مسلمان پر زندگی میں ایک مرتبہ واجب ہے بشرطیکہ وہ حج بیٹھ اللہ کی استطاعت رکھتا ہو۔ جو شخص خانہ کعبہ سے ۱۶ فرخ (تقریباً ۸۸ کلومیٹر) یا اس سے زیادہ دور رہتا ہو اس کے لیے حج کے دو جزو ہیں : ایک عمرہ تمتّع اور دوسرا حج تمتّع۔  
اول : عمرہ تمتّع۔ اس کے پانچ اعمال ہیں :

- (۱) احرام (۲) طواف (۳) نماز طواف (۴) سُقی (۵) تقصیر
- دوم : حج تمتّع۔ اس کے تیرہ اعمال ہیں :
  - (۱) مکہ سے احرام باندھنا۔
  - (۲) وقوف عرفات۔ ۹ رذی الحجہ کو زوال سے لے کر غروب آفتاب تک عرفات میں ٹھہرنا۔
  - (۳) وقوف مُزَدَّفہ۔ عیدِ قربان کی رات کے کچھ حصے سے لے کر سورج نکلنے تک مُزَدَّفہ میں ٹھہرنا۔
  - (۴) عید کے دن منی میں جمرہ عقبہ کو کنکریاں مارنا۔
  - (۵) عید کے دن منی میں قربانی کرنا۔
  - (۶) عید کے دن منی میں اپنے حسب حال سرمونڈنا یا تقصیر کرنا۔
  - (۷) مکہ واپس آ کر طواف حج کرنا۔

- (۸) نمازِ طواف ادا کرنا۔
  - (۹) صفا اور مزدہ کے درمیان سَعْی کرنا۔
  - (۱۰) طوافُ النساء بھجا لانا۔
  - (۱۱) نمازِ طوافُ النساء ادا کرنا۔
  - (۱۲) گیارہ اور بارہ تاریخ کی شب منی میں گزارنا۔  
(بعض صورتوں میں تیر ہویں کی شب بھی)۔
  - (۱۳) گیارہ اور بارہ تاریخ کو تینوں جمرات کو کنکریاں مارنا۔  
(بعض صورتوں میں تیر ہویں تاریخ کو بھی)۔
- جو شخص مسجدِ الحرام یعنی خانہ کعبہ سے ۱۶ فرخ سے کم فاصلے پر رہتا  
اس پر واجب ہے کہ حج افراد یا حج قبران کرے اور عمرہ مُفرَّدہ بھی کرے  
جس پر حج واجب نہ ہو وہ بھی اگر ہو سکے تو عمرہ مُفرَّدہ کرے۔

## زکات

زکات فروعِ دین میں سے چوتھی فرع ہے۔ قرآن مجید فرماتا ہے:

وَمَا أُمِرْتُ وَإِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ هُنْ لِصِرَاطِ الْمُسْتَقِيمَ لَهُ الدِّينُ حُنَفَاءَ وَيُقْرِبُونَ  
الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكُورَةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيْمَةِ ○ ان کو یہی حکم دیا گیا تھا کہ  
اللہ کی عبادت کریں اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر کے بالکل یکسو ہو کر  
اور نماز پڑھیں اور زکات دیں کہ یہی سچا دین ہے۔ (سورہ بیتہ: آیت ۵)  
ہمارے پیارے نبی ﷺ نے فرمایا ہے کہ اپنے مال کی زکات دو  
تاکہ تمہاری نمازیں قبول ہوں۔

## زکات کا وجوب

زکات ہر اُس مُکَلَّفٍ پر واجب ہے جو بالغ، عاقل اور آزاد ہو اور  
وہ پورے سال کے دوران صاحبِ نصاب رہا ہو یا زکات کے وجوب کے  
وقت صاحبِ نصاب ہو۔ نیز وہ متعلقہ مال میں تصرف کا اختیار رکھتا ہو۔<sup>۱</sup>

۱۔ گیہوں، جو، کشمش، سمجھو اور اسی طرح اونٹ، گائے اور بھیڑ بکریوں میں مالک کا بالغ اور عاقل ہونا شرط  
نہیں ہے۔

اس کی کچھ شرائط بھی ہیں جن کا ذکر ہم ان چیزوں کے ساتھ کریں گے جن پر زکات واجب ہے۔

## کن چیزوں پر زکات واجب ہے

الف: چار قسم کی اجناس یعنی، گندم، جو، بھجور اور کشمش۔

ب: تین قسم کے مویشی بھیڑ بکری، گائے نیل اور اونٹ۔

ج: دو قسم کی نقدی سونا اور چاندی۔

د: احتیاط لازم کی بنا پر مال تجارت۔

اب ہم ان میں سے ہر ایک پر زکات واجب ہونے کی شرائط، ان کا نصاب اور زکات کی مقدار بتاتے ہیں۔

الف: اجناس پر زکات واجب ہونے کی شرائط:

(۱) زکات کے وقت ملکیت کا پایا جانا یعنی جب ان اجناس پر ان کے ناموں کا اطلاق ہوتا ہو۔

(۲) وجوب زکات کے وقت ان میں سے ہر ایک کے نصاب کی مقدار خشک حالت میں تقریباً ۸۳ کلوگرام ہے۔

## زکات کی مقدار

جو جنس بارش وغیرہ سے سیراب ہواں پر دس فیصد، جو گنوں یا نہر وغیرہ کے پانی سے سیراب ہواں پر بیس فیصد اور جو بارش اور گنوں یعنی

دونوں طرح سے سیراب ہواں پر ساڑھے سات فیصد زکات ہے۔  
ان میں سے ہر جنس پر صرف ایک مرتبہ زکات واجب ہوتی ہے اور  
اس پر ایک سال گزرنا شرط نہیں۔

ب: بھیڑ بکری، گائے بیل اور اونٹ پر زکات واجب ہونے کی شرائط:

- (۱) ایک سال گز رجائے۔
- (۲) مویشیوں سے کوئی کام نہ لیا جاتا ہو (بار برداری وغیرہ)۔
- (۳) سارا سال چڑاگاہ میں چرتے ہوں (خود کھلانا نہ پڑتا ہو)۔

### (۴) نصاب

## گوسفند کا نصاب

- (۱) ۳۰ بھیڑ بکریوں کی زکات ایک بھیڑ یا بکری ہے۔
- (۲) جب یہ ۱۲۱ ہو جائیں تو دو بھیڑیں یا دو بکریاں۔
- (۳) جب ۲۰۱ ہو جائیں تو تین بھیڑیں یا تین بکریاں۔
- (۴) جب ۳۰۱ ہو جائیں تو چار بھیڑیں یا چار بکریاں۔
- (۵) ۳۰۰ اور اس سے زیادہ ہوں تو ہر سو پر ایک بھیڑ یا ایک بکری۔

## گائے کا نصاب

- (۱) ۳۰ گائے بیل کی زکات ایک بچھڑا ہے جو دوسرے سال میں داخل ہو چکا ہو۔

- (۲) جب ۳۰ ہو جائیں تو ایسی ماہ گانے جو تیرے سال میں لگی ہو۔
- (۳) اگر اس سے زائد ہوں تو جب تک ۶۰ تک نہ پہنچیں تو ضروری ہے کہ صرف ۳۰ پر زکات دے۔

### اوٹ کا نصاب

جب پانچ اوٹ ہوں تو ان پر ایک بھیڑ یا بکری دے۔ اسی طرح دس پر دو بھیڑیں، پندرہ پر تین بھیڑیں، بیس پر چار بھیڑیں اور پچیس پر پانچ بھیڑیں دی جائیں۔

### سونے چاندی کا نصاب

سونے چاندی پر زکات کے واجب ہونے کی شرائط:

- (۱) سکے کی شکل میں راجح وقت کرنی ہو۔ زیورات پر اور سونے چاندی کی سلاخوں پر زکات نہیں۔
- (۲) سال گزر جائے۔
- (۳) نصاب۔

### سونے کا نصاب

پہلا نصاب:

۲۰ مشقائی شرعی پر اس کا چالیسوں حصہ بطور زکات دے۔

دوسرانصاٽ:

چار مشقال شرعی پر ڈھائی فیصد کے حساب سے زکات دے۔

## چاندی کا نصاٽ

پہلانصاٽ:

۱۰۵ مروجہ مشقال ہے۔ اس کا ڈھائی فیصد زکات دے۔

دوسرانصاٽ:

۲۱ مروجہ مشقال کے اضافے پر کل وزن کا چالیسوں حصہ زکات دے۔

لہذا سونے چاندی کی زکات کا قاعدہ یہ ہوا کہ ۱/۶ یا ڈھائی فیصد کے

حساب سے زکات دے۔

## زکات کے مصارف

(۱) زکات کے آٹھ مصارف ہیں:

فقیر، مسکین، عامل زکات، مُؤَلِّفَةُ الْقُلُوبُ، غلام، قرضدار، مسافر،

امور خیر۔

(۲) مستحق میں حسب ذیل شرائط کا پایا جانا ضروری ہے:

ایک مشقال شرعی ۱۸ نخود کے برابر ہوتا ہے اور ۲۰ مشقال شرعی آج کل کے مروجہ ۱۵ مشقال کے برابر ہوتا ہے۔

۱۵ مشقال شرعی سونے کی زکات ۹ نخود اور ۱۰۵ مروجہ مشقال چاندی کی زکات دو مشقال ۱۵

نخود ہوتی ہے۔ ایک گرام میں ۵ نخود (پنچے) ہوتے ہیں۔

الف: ایمان یعنی مسلمان اور شیعہ اثنا عشری ہو۔

ب: زکات کو گناہ کے کاموں میں خرچ نہ کرتا ہو۔ احتیاط واجب

یہ ہے کہ زکات ایسے شخص کونہ دی جائے جو نماز نہ پڑھتا ہو یا

شراب پیتا ہو یا کھلتم کھلا فسق و فجور کے کام کرتا ہو۔

ج: غیر ہاشمی کی زکات ہاشمی کو نہیں دی جاسکتی۔

د: اس کا نفقة زکات دینے والے پر واجب نہ ہو۔

(۳) زکات ایک مقام سے دوسرے مقام پر منتقل کی جاسکتی ہے۔

(۴) مستحب ہے کہ زکات کا بڑا حصہ اہل فضل و مکمال کے لیے مخصوص کیا

جائے۔ اپنے عزیز و اقارب کو ترجیح دی جائے۔ نہ مانگنے والوں کو

مانگنے والوں پر ترجیح دی جائے اور مویشیوں کی زکات سفید پوشوں پر

خرچ کی جائے۔

(۵) جس غریب کو زکات دی جائے اسے یہ بتلانے کی ضرورت نہیں کہ

جو کچھ اسے دیا جا رہا ہے وہ زکات ہے۔

(۶) اگر کسی پر اس کا قرض ہو تو زکات دینے والا اس قرض کو زکات میں

محسوب کر سکتا ہے۔

(۷) زکات کی ادائیگی میں بغیر کسی عذر کے تاخیر جائز نہیں۔

(۸) اگر کوئی شخص اتنا کما سکتا ہے کہ اس کی سال بھر کی ضروریات پوری

- ہو جائیں اس کے لیے فقراء کے زُمرے میں داخل ہو کر زکات لینا جائز نہیں۔ البتہ بعض خاص صورتوں میں وہ زکات لے سکتا ہے۔
- (۹) جس کے پاس سرمایہ تو ہو لیکن اس کا منافع اس کی سال بھر کی ضروریات کے لیے ناقابلی ہو اس کے لیے زکات لینا جائز ہے۔
- (۱۰) اجنبیاں پر زکات واجب ہونے کے بعد کھبٹی اور پھلوں پر جو مصارف ہوں حاکم شرع کی اجازت سے ان کا زکات سے منہما کرنا جائز ہے مگر اس سے پہلے کا خرچ حتیٰ کہ احتیاط لازم کی بنا پر بیچ کی قیمت بھی منہما نہیں کی جائے گی۔
- (۱۱) زکات کے ادا کرنے میں قربت کا قصد ضروری ہے کیونکہ زکات عبادت ہے۔
- (۱۲) ہاشمی کے لیے ہاشمی کی زکات لینا جائز ہے۔
- (۱۳) ہاشمی وہ ہے جس کا آبائی سلسلہ نسب جناب ہاشم سے ملتا ہو۔ ماں کی طرف سے ہاشمی نسب کافی نہیں ہے۔ نسب یا تو معلوم ہو یا دلیل سے ثابت ہو جائے یا اس طرح عام طور پر مشہور ہو کہ موجب اطمینان ہو چنانچہ محض کسی کا ہاشمی ہونے کا دعویٰ کافی نہیں ہے۔
- (۱۴) غیر ہاشمی کے جو صدقات ہاشمی پر حرام ہیں وہ زکات اور فطرہ ہیں۔ ان دو زکاتوں کے سواب واجب اور مستحب صدقات کا سپید کو دینا جائز ہے خواہ دینے والا غیر سپید ہی ہو۔ مثال کے طور پر کفار عرب

کے لیے ہو یا کسی اور مقصد سے ہو۔

(۲) وہ چیزیں جو معدن یعنی کان میں سے نکلیں جیسے سونا، چاندی، نمک، کوتلہ، پیڑوں، گندھک وغیرہ۔ اس کے لیے حسب ذیل شرائط ہیں:

### خمس کا نصاب

معدنی چیز کی قیمت اس کو کان سے نکالنے کے اخراجات منہا کرنے سے پہلے کم از کم ۱۵ مروجہ مثقال سونے کے سکوں کے برابر ہو۔ اگر اس چیز کی اتنی قیمت ہو تو پھر اس کو کان سے نکالنے کے اخراجات منہا کر لینے کے بعد جو باقی پچے اس کا خمس ادا کیا جائے۔

### برآمدگی کی مقدار

یہ مقدار ایک وقت میں نکالی جائے یعنی اس طرح نکالی جائے کہ اسے عرف میں ایک دفعہ کا نکالنا کہیں۔ اگر کئی دفعہ کے نکالنے سے مجموعی قیمت نصاب تک پہنچ جائے تو بھی اس پر خمس واجب نہیں ہوگا۔ اگر کئی شرکاء ہوں تو ان سب کے حصوں کامل کر نصاب تک پہنچ جانا کافی ہے۔

(۳) دفینہ یعنی وہ مال جو کسی جگہ دبایا ہوا ہو۔ اس کی بھی متعدد شرائط ہیں جن میں سے ایک اس کی مقدار کا نصاب کے برابر ہونا ہے۔

(۴) غُواصی کا مال یعنی وہ چیزیں جو سمندر یا بڑے دریا میں سے غوطہ لگا

کرنکالی جائیں یا سمندر سے کسی آئے کی مدد سے نکالی جائیں جیسے  
موتی لیکن ان میں سمندری جانور مثلاً مچھلی وغیرہ شامل نہیں ہیں۔

(۵) احتیاط کی بنا پر وہ زمین جو ایک ذمی کسی مسلمان سے خریدے۔

(۶) وہ مال جس میں حرام مال اس طرح مل جائے کہ تمیز نہ ہو سکے اور  
حرام مال کی مقدار اور اس کے بالکل کا علم نہ ہو۔ ایسا مال خمس  
نکالنے سے حلال ہو جائے گا۔

(۷) آمدنی اور منافع۔ اس میں سے خرچ نکال کر جو نفع جائے۔ آمدنی  
میں تخفیف تھائے بھی شامل ہیں لیکن میراث، ہرجانہ، مہر اور خُلُع  
کا معاوضہ شامل نہیں۔

## خمس کے مسائل

(۱) آمدنی میں سے جو خرچ نکال دیا جاتا ہے اس کی دو قسمیں ہیں:  
اول: اس آمدنی کو حاصل کرنے کے مصارف جیسے دکان کا خرچ،  
کھیتی کا خرچ، جانوروں کا خرچ، کرایہ، اجرتِ حمل و نقل،  
کلرک کی تخلواہ، دلال، چوکیدار کی اجرت، حکومت کے لیکن  
اور سامان کی فرسودگی (Depreciation) وغیرہ۔

دوم: خمس ادا کرنے اور اس کے اہل و عیال کے مناسب حال،  
اخراجات یعنی خوراک، سامان، مہمان داری، مناسب تھائے،

عام سفر اور زیارات کے اخراجات، قرض کی ادائیگی، جرمانے، حمل و نقل، کتابیں، مکان، شادی بیاہ اور وہ سب چیزیں جن کی اسے اور اس کے متعلقین کو ضرورت ہوتی ہے۔

(۲) جو کچھ خرچ سے فیض ہے اس پر خمس واجب ہوگا چاہے نقد روپیہ ہو یا جنس وغیرہ جیسے گیہوں، چاول، چینی، گھنی، ایندھن وغیرہ۔

(۳) جس مال کا خمس ادا کر دیا ہو اگر اس سے کوئی چیز خریدی اور سال بھر کے بعد اس کی قیمت بڑھ گئی تو اس میں خمس نہیں ہوگا کیونکہ یہ اصول ہے کہ **إِنَّ الْخُمُسَ لَا يُخْتَمِّسُ** جس چیز کا خمس ادا کر دیا جائے پھر اس پر خمس نہیں ہے۔

(۴) جس کو آہتہ آہتہ آمدنی ہوئی اور اس نے ایک سال پلاٹ خرید لیا۔ اگلے سال عمارتی سامان خریدا۔ تیرے سال عمارت بنوائی تو اس صورت میں اس نے جو کچھ خریدا وہ اس سال کا خرچ شمار نہیں ہوگا بلکہ اسے اس پر خمس ادا کرنا ہوگا۔

(۵) اگر کسی نے اپنی آمدنی میں سے سال کے دوران میں رہنے کے لیے مکان تعمیر کیا اور اس میں رہنے لگا تو اس پر خمس نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کسی نے قرض لے کر مکان خریدا اور اسی سال اس میں رہنے لگا یا بعد میں اس سال سے پہلے یا اس سال میں رہنے لگا جس کی آمدنی

سے اس نے یہ قرض ادا کیا تو اس پر خمس نہیں خواہ کئی سال بعد قرض ادا کرے۔ پھر حکم گھر کے سامان، شادی کے لوازم اور دوسرے اخراجات کا ہے۔

(۶) سال گزرنے کے بعد مال میں تصرف یا اس سے تجارت جائز نہیں جب تک کہ خمس ادا نہ کر دیا جائے لیکن اگر کسی نے تجارت کر لی تو علی الظاہر معاملہ صحیح ہو گا بشرطیکہ دوسرا فریق بھی مومن ہو اور اگر وہ چیز ادھار پیچی ہے تو قیمت سے خمس ادا کرنا ہو گا۔ اسی طرح اگر وہ چیز کسی کو ہبہ کر دی تو ہبہ تو درست ہو جائے گا لیکن خمس ہبہ کرنے والے کے ذمے واجب الادا ہو گا۔

(۷) اگر بالغ وارث کو معلوم ہو کہ اس کے مورث نے ترکہ کا خمس نہیں دیا تھا اور مورث خمس دیتا تھا تو وارث پر میراث میں سے خمس دینا واجب ہے۔ اگر معلوم ہو کہ متوتو نے وہ چیز ضائع کر دی جس پر خمس واجب تھا تو اس کے ترکے سے خمس نکالنا اسی طرح واجب ہو گا جیسے اس کے قرضوں کی ادائیگی واجب ہے۔

(۸) اگر ایک سال کا خمس ادا نہیں کیا اور اگلا سال شروع ہو گیا۔ پھر اس سال کی آمدنی میں سے آہستہ آہستہ خمس ادا کیا تو وہ خمس اس اگلے سال کے خرچ میں شمار نہیں ہو گا بلکہ اگر پچھلے سال کی آمدنی موجود

- ہے تو اس میں سے خُس ادا کرنا واجب ہوگا۔
- (۹) خُس اصل چیز پر واجب ہوتا ہے لیکن مالک کو اصل چیز یا اس کی قیمت دینے کا اختیار ہے۔
- (۱۰) آمدنی ہونے پر خُس فوراً واجب ہو جاتا ہے لیکن اس کی ادائیگی کو اگلا سال شروع ہونے تک موخر کرنا جائز ہے۔
- (۱۱) اگر خُس کے مستحق کے ذمے صاحب خُس کا کوئی قرض ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس قرض کو خُس کے حساب میں لگالیا جائے تو احتیاط واجب یہ ہے کہ حاکم شرع (مرجع تقلید) سے اس کی اجازت لی جائے۔
- (۱۲) مومن کو کسی ایسے شخص کے مال میں اس کی رضامندی سے تصرف کرنا جائز ہے جو خُس ادا نہیں کرتا۔ مالک کے خُس ادا نہ کرنے سے اس مومن پر کوئی ذمے داری عائد نہیں ہوتی کیونکہ خُس ادا کرنے یا نہ کرنے کی ذمے داری مالک کی ہے۔
- (۱۳) کسی ایسے شخص کے ساتھ شراکت کرنا جو خُس ادا نہیں کرتا جائز ہے اور محض اپنے حصے کی آمدنی کا خُس نکالنا کافی ہے۔
- (۱۴) خُس کا مصرف: خُس کے دو حصے ہیں۔
- پہلا حصہ ستمہ امام۔
- یہ امام علیہ السلام کا حق ہے۔ اس کے لیے مرجع تقلید یا ان کے وکیل

سے رجوع کیا جائے۔ پھر یہ انھیں دے دیا جائے یا ان کی اجازت سے کسی اور مستحق کو دیا جائے۔  
دوسرًا حصہ سادات۔

یہ سادات کا حق ہے۔ یہ ایسے ہاشمی سید کو دیا جائے جس کا آبائی سلسلہ نسب جناب ہاشم تک پہنچتا ہو جیسا کہ بتایا جا چکا ہے۔ ہاشمی کے لیے ایمان کے ساتھ غریب اور دیندار ہونے کی شرط بھی ہے۔

(۱۵) احتیاط واجب کی بنا پر خمس ایسے شخص کو دینا جائز نہیں جس کا نفقة اس پر واجب ہو البتہ اگر نفقة واجب نہیں لیکن وہ اس کا خرچ اٹھاتا ہے تو کوئی مضائقہ نہیں۔

## جہاد

جہاد فروع دین میں سے چھٹی فرع ہے۔ اگر جہاد کی شرائط موجود ہوں تو جہاد ہر مسلمان پر واجب ہے۔

جہاد کی دو قسمیں ہیں:

(۱) جہادِ نفس۔ اس کے معنی ہیں خوبیوں کو اختیار کرنا اور برائیوں کو چھوڑنا۔ حدیث میں ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ ﷺ نے ایک لشکر بھیجا۔ جب لشکری واپس آئے تو آپ نے فرمایا:

مَرْحَبًا بِقَوْمٍ قَضُوا الْجِهَادَ الْأَصْغَرَ وَبَقَى عَلَيْهِمُ الْجِهَادُ الْأَكْبَرُ  
قَيْلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَمَا الْجِهَادُ الْأَكْبَرُ؟ قَالَ: جِهَادُ النَّفَرِينَ مَبَارِكٌ ہو کہ  
تم نے جہادِ اصغر پورا کر لیا مگر جہادِ اکبر بھی باقی ہے۔

انھوں نے پوچھا: یا رسول اللہ! جہادِ اکبر کیا ہے؟  
آپ نے فرمایا: اپنے نفس کے خلاف جہاد۔

(۲) جہادِ بدن

جہادِ بدن کی دو قسمیں ہیں:

(۱) دفاع

(۲) حملہ

## دفاع

جب کفار مسلمانوں پر حملہ کریں تو مسلمانوں پر واجب ہے کہ اپنا،  
اپنے متعلقات کا اور اپنے دلن کا دفاع کریں۔

## حملہ

مسلمانوں پر اعلائے کلمۃُ الاسلام کے لیے جہاد کرنا واجب ہے۔  
یہ امام یا نائب امام کی اجازت کے ساتھ مشروط ہے۔ کچھ اور بھی شرائط ہیں  
جن کا ذکر بڑی بڑی کتابوں میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحِرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزِيرَةَ عَنْ يَدِهِمْ صَغِرُونَ ○ جنگ کرو اہل کتاب میں سے ان لوگوں کے خلاف جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان نہیں لاتے اور جو کچھ اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے اسے حرام نہیں کرتے اور دینِ حق کو اختیار نہیں کرتے (ان سے لڑو) یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزیرہ دیں

اور چھوٹے بن کر رہیں۔ (سورہ توبہ: آیت ۲۹)

رسول پاک ﷺ کی حدیث ہے کہ جو شخص جہاد ترک کرے گا اللہ اس کو ذلیل کرے گا، اس کی روزی کم کر دے گا اور اس کا دین برباد ہو جائے گا۔<sup>۱</sup>

رسول پاک ﷺ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جبریلؑ نے مجھے ایک ایسی خبر دی ہے جس سے میری آنکھیں ٹھنڈی ہو گئیں اور میرا دل خوش ہو گیا۔

جبریلؑ نے کہا:

اے محمدؐ! جو شخص آپؐ کی امت میں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرے گا اس پر بارش کا ایک قطرہ بھی ٹپک گیا یا اس کے سر میں ذرا بھی درد ہوا تو اللہ عز وجل اسے شہادت کا ثواب عطا کرے گا۔<sup>۲</sup>

ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ عورت کا جہاد یہ ہے کہ اپنے شوہر کی خدمت کرے۔<sup>۳</sup>

### جہاد کے مسائل

(۱) کُفار سے جہاد کرنا واجبِ کفائی ہے یعنی اگر جہاد کے لیے اتنے آدمی اٹھ کھڑے ہوں کہ پوری طرح مقابلہ ہو جائے تو باقی لوگوں سے جہاد ساقط ہو جائے گا ورنہ اصولاً جہاد سب مسلمانوں پر واجب

ہے اور اگر کوئی بھی نہ اٹھے تو سب کے سب گنہگار اور خدا کی طرف سے سزا کے مستحق ہوں گے۔

(۲) جہاد میں پہل کرنا محترم ہمینوں میں حرام ہے اور وہ مہینے یہ ہیں:

(۱) رَجَب (۲) ذِی قُدْه (۳) ذِی الْحِجَّة (۴) مُحَرَّم

(۳) گُفار کے جن شہروں میں شعائرِ اسلام غلائیہ بجانہ لائے جاسکتے ہوں وہاں سے ہجرت کر جانا واجب ہے۔

(۴) بلادِ اسلام کے دفاع کے لیے ان کی سرحدوں کی نگہبانی کرنا اور جہاد کے لیے تیار رہنا مستحب ہے۔

## اَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ

امر بالمعروف فروع دین میں سے ساتویں اور تہی عن المُنْكَر آٹھویں فرع ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے:

وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَايُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ○

تم میں سے ایک گروہ تو ایسا ضرور ہونا چاہیے جو نیکی کی طرف بلائے، بھلائی کا حکم دے اور برائیوں سے روکے۔ جو لوگ یہ کام کریں گے وہی فلاح پائیں گے۔

(سورہ آل عمران: آیت ۱۰۳)

ایک اور جگہ ارشاد اقدس الہی ہے:

كُنْتُمْ خَيْرًا أُخْرِجْتُ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَايُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ○

تم وہ بہترین امت ہو جسے انسانوں کی ہدایت و اصلاح کے لیے میدان میں لا یا گیا ہے۔ تم نیکی کا حکم دیتے اور برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ (سورہ آل عمران: آیت ۱۱۰)

حضرت نبی کریم ﷺ نے فرمایا ہے:  
 جب میری امت امر بالمعروف اور نہیں عنِ المنکر سے غفلت برتنے<sup>۱</sup>  
 لگے تو وہ اللہ کے عذاب کے لیے تیار ہو جائے۔<sup>۲</sup>  
 حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے:  
 امر بالمعروف و نہیں عنِ المنکر کو شہ چھوڑ ورنہ بُرے لوگ تم پر  
 مسلط کر دیئے جائیں گے۔ پھر تم دعا میں مانگتے رہو گے اور وہ قبول نہیں  
 ہوں گی۔<sup>۳</sup>

امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا:  
 کتنے بُرے ہیں وہ لوگ جو امر بالمعروف اور نہیں عنِ المنکر پر اعتراض  
 کرتے ہیں۔<sup>۴</sup>  
 امر بالمعروف و نہیں عنِ المنکر اہم ترین واجباتِ کفائی میں سے ہے۔  
 ☆ معروف میں وہ سب امور آجاتے ہیں جن کو شریعتِ مُقدَّسَہ  
 نے واجب قرار دیا ہے۔  
 ☆ منکر سے مراد وہ امور ہیں جن کو شریعتِ مُقدَّسَہ نے حرام قرار  
 دیا ہے۔  
 مستحب کام کرنے کو کہنا اور مکروہ کام سے روکنا مستحب ہے۔

- 
- ۱۔ اصول کافی ج ۵، کتاب الجہاد
  - ۲۔ نیج البلاغہ، امام حسن اور امام حسین کو صفت
  - ۳۔ اصول کافی ج ۵، کتاب الجہاد

امر بالمعروف اور نهى عن المنكر کی شرائط

امر بالمعروف و نهى عن المنکر کے واجب ہونے کی پانچ شرائط ہیں :

(۱) معروف اور مُنکر سے واقفیت۔

(۲) اس بات کا امکان کہ جسے معروف کے لیے کہا جائے گا اور مُنکر سے منع کیا جائے گا وہ اس بات کو مان لے گا۔

(۳) یہ کہ جو شخص معروف پر عمل نہیں کرتا یا مُنکر سے اجتناب نہیں کرتا اس کے پاس ایسا کرنے کے لیے کوئی جائز عذر نہ ہو۔

(۴) یہ کہ شخص مذکور معروف کو چھوڑنے اور مُنکر کو اختیار کرنے پر اصرار کرتا ہو۔

(۵) یہ کہ نیکی کا حکم دینے والے اور بُرائی سے روکنے والے کو جان اور مال کے نقصان کا اندازہ نہ ہو اور نہ کسی دوسرے مسلمان کی جان اور مال یا عزّت کو کوئی خطرہ ہو۔

نوٹ :

امر بالمعروف اور نهى عن المنکر صرف علمائے دین ہی کا فرض نہیں بلکہ یہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر واجب ہے۔ اس میں علماء اور غیر علماء سب برابر ہیں۔ اس سلسلے میں نیک و بد، حاکم و رعیت اور امیر و غریب میں بھی کوئی فرق نہیں ہے۔

## امر بالمعروف اور نهى عن المنكر کے درجات

- (۱) دل سے بیزاری اور ناک بھوں چڑھا کر یا منہ پھیر کر اس کا اظہار کرنا۔
- (۲) زبان سے بیزاری ظاہر گرنا اور اس پر وعظ و نصیحت کرنا۔
- (۳) بیزاری کی وجہ سے اس کام کو طاقت کے ساتھ روک دینا۔

یہ مرحلہ اس وقت آتا ہے جب پہلی دُنیوں تدبیریں ناکام ہو جائیں۔  
نوت : ہر تدبیر کے خفیف اور شدید دو درجے ہیں لیکن ابتدا ہمیشہ خفیف درجے سے کرنی چاہیے۔

## بعض معرفات

- (۱) اللہ پر بھروسہ۔
- (۲) اللہ کی پناہ ڈھونڈنا۔
- (۳) اللہ کے ساتھ حُسنِ ظن رکھنا۔
- (۴) مصیبت کے وقت اور ناجائز امور سے اجتناب پر ثابت قدم رہنا۔
- (۵) عفّت۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اللہ کے نزدیک کوئی عبادت پیٹ اور شرمنگاہ کی حفاظت سے افضل نہیں۔
- (۶) بُردباری۔ امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ کوئی شخص اس وقت تک عبادت گزار نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ بُردبار نہ ہو۔

- (۷) تَوَاضْعُ۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا ہے کہ جو اللہ کے لیے جھکتا ہے اللہ اسے عزّت دیتا ہے اور جو اگڑ دکھاتا ہے اللہ اسے ذلیل کر دیتا ہے۔
- (۸) سب کے ساتھ انصاف کرنا خواہ وہ اپنے ہی خلاف جاتا ہو۔
- (۹) لوگوں کی کمزوریاں ڈھونڈنے کے بجائے اپنے عیوب پر نگاہ رکھنا۔
- (۱۰) جب دل غلط کاری پر مائل ہو تو ان کو نیکی کی طرف لانا۔
- (۱۱) دنیا سے کم تعلقی اور بے رقبتی۔

## بعض مُنکرات

- (۱) غصہ۔ رسول پاک ﷺ نے فرمایا ہے کہ غصہ ایمان کو تباہ کر دیتا ہے امام جعفر صادقؑ سے روایت ہے کہ غصہ تمام برائیوں کی کنجی ہے۔
- (۲) حَدَد۔ امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہما السلام فرماتے ہیں کہ حَدَد ایمان کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔
- ایک روز رسول اللہ ﷺ نے اپنے اصحاب سے فرمایا:
- تم سے پہلی امتوں کی ایک بیماری تم تک بھی پہنچ گئی ہے اور وہ حَدَد ہے۔ یہ دین کو بالوں کی طرح مونڈ دیتا ہے۔ اس سے نجات کا ذریعہ یہ ہے کہ آدمی اپنے ہاتھ اور زبان گوروک کر رکھے اور اپنے کسی مومن بھائی کی عَيْب جوئی نہ کرے۔

(۳) ظُلم۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو ظُلم کرتا ہے اسے اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے۔ نیز یہ کہ جس نے ظُلم کیا وہ بھلائی نہیں کہا سکتا۔ ایک ظالم کسی مظلوم کا جتنا مال لیتا ہے وہ مظلوم اس سے کہیں زیادہ ظالم کا دین یعنی نیکیاں لے لیتا ہے۔

(۴) آدمی کا ایسا ہونا کہ لوگ اس کے شر سے پناہ مانگیں۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ اللہ کے نزدیک قیامت کے دن بدترین آدمی وہ ہوگا جس کی لوگ اس لیے عزت کریں تاکہ اس کے شر سے محفوظ رہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں: جس کی زبان سے لوگ ڈرتے ہوں وہ دوزخ میں جائے گا۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ خلقِ خدا میں سب سے قابل نفرت وہ ہے جس کی زبان سے لوگ ڈرتے ہیں۔

## بعض گناہاں کبیرہ

- (۱) اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا۔
- (۲) اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا۔
- (۳) اللہ کے نازل کردہ کلام قرآن مجید کا انکار کرنا۔
- (۴) کُفار کے خلاف جنگ سے فرار کرنا۔
- (۵) جھوٹی قسم کھانا۔

- (۲) عَهْدِ شُكْنَى كرنا۔
- (۳) نِمَاز اور دِيگر فرائض سے غفلت بر تنا۔
- (۴) حج کی تحقیر کرنا۔
- (۵) صَغِيرَه گناہوں پر اصرار کرنا۔
- (۶) گناہوں کو معمولی بات سمجھنا۔
- (۷) ظالموں کی مدد کرنا۔
- (۸) ظالموں سے دوستی کرنا۔
- (۹) ظالموں کی طرف جھکاؤ رکھنا۔
- (۱۰) جھوٹی گواہی دینا۔
- (۱۱) سچی گواہی کو چھپانا۔
- (۱۲) مسلمانوں کو دھوکا دینا۔
- (۱۳) دکھاوے کی نیکی کرنا۔
- (۱۴) والدین کی نافرمانی کرنا۔
- (۱۵) جُواکھیلنا۔
- (۱۶) تکبُّر کرنا۔
- (۱۷) فضول خرچی کرنا۔
- (۱۸) سنجوی کرنا۔

- (۲۳) غمیبت کرنا۔  
 (۲۴) شہمت لگانا۔  
 (۲۵) گالیاں دینا۔  
 (۲۶) مومن کو ذلیل کرنا۔  
 (۲۷) نا حق قتل کرنا۔  
 (۲۸) قطع رحمی کرنا۔  
 (۲۹) سود کھانا۔  
 (۳۰) بیتیم کا مال چھین لینا۔  
 (۳۱) مردار کھانا۔  
 (۳۲) سور کا گوشت کھانا۔  
 (۳۳) شراب پینا۔  
 (۳۴) خون پینا۔  
 (۳۵) ناپ تول میں کمی کرنا۔  
 (۳۶) کسی کا حق مارنا۔  
 (۳۷) چوری کرنا۔  
 (۳۸) جادو ٹوٹانا کرنا۔  
 (۳۹) جو جانور غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے اس کا گوشت کھانا۔

- (۳۰) مومنین میں بچوٹ ڈالنے کے لیے لگائی بجھائی کرتے پھرنا۔
- (۳۱) اللہ، رسول اور ائمہ پر جھوٹ باندھنا بلکہ مطلق جھوٹ بولنا۔
- (۳۲) حرام کا مال کھانا۔

مندرجہ ذیل چیزیں مال حرام کے ضمن میں آتی ہیں:

- (۱) مردار کی قیمت۔
  - (۲) شراب اور نشیات کی قیمت۔
  - (۳) شترنج کی قیمت۔
  - (۴) گئے کی قیمت (سوائے شکاری گئے کے)۔
  - (۵) نجومی کی فیس۔
  - (۶) رشوت لینا خواہ جائز کام کے لیے ہو۔
  - (۷) ظالم حکام سے کام کا معاوضہ لینا۔
- گناہوں کبیرہ اور بھی ہیں جن کا ہم نے تذکرہ نہیں کیا۔  
 دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری خطاؤں کو معاف کر دے اور ہمیں  
 گناہوں سے محفوظ رکھے۔

## تَوَلّا وَتَبَرّا

توالا فروع دین میں سے نویں اور تبرا دسویں فرع ہے۔

ہر مسلمان مرد اور عورت پر خدا، رسول خدا، تمام انبیاء اور ائمہ نیز بی بی فاطمہ زہرا کو دوست رکھنا، ان سے محبت کرنا اور ان کے دشمنوں سے اظہار بیزاری کرنا واجب ہے۔

اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے :

(۱) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَعْجِلُوا إِلَيْنَا الَّذِينَ أَخْنَنُوا دِينَكُمْ هُنُّوا وَلَعَبًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ أَوْلَى بِأَهْلِهِمْ وَإِنَّمَا تَقُولُونَ اللَّهَ أَنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ○ اے اہل ایمان ! جن لوگوں نے تمہارے دین کو ہنسی کھیل بنا رکھا ہے وہ اہل کتاب ہوں یا دوسرے گفار۔ انھیں دوست مت بناؤ اور ڈرو اللہ سے اگر تم ایمان والے ہو۔

(سورہ مائدہ: آیت ۷۵)

(۲) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِيبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مُّوْمِنُوا إِنْ سے

بھی دوستی مت کرو جن سے اللہ ناراض ہے۔ (سورہ ممتحنة: آیت ۱۳)

(۳) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَخَذُنَّوْا أَبْءَاءَ كُمْ وَأَخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنْ اسْتَحْبُوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ○ مومنو! اپنے باپ واوا اور بھائیوں کو اپنا دوست نہ بناؤ اگر وہ ایمان پر کفر کو ترجیح دیں۔ تم میں سے جو ان کو دوست بنائیں گے وہی ظالم ہوں گے۔ (سورہ توبہ: آیت ۲۳)

(۴) وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَلِبُونَ جو اللہ، اس کے رسول اور مؤمنین کو دوست رکھے (وہ اطمینان رکھے) کہ اللہ کی جماعت والے ہی غالب آئیں گے۔ (سورہ مائدہ: ۵۶)

(۵) قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوْدَةُ فِي الْقُرْبَانِ میں تم سے اپنے قرابت داروں کی محبت کے سوا اس کا رسالت کا کوئی آجر نہیں مانگتا۔

(سورہ شوریٰ: آیت ۲۳)

جب یہ آیت نازل ہوئی تو لوگوں نے رسول اللہ ﷺ سے پوچھا:

یا رسول اللہ! وہ کون اقرباء ہیں جن کی محبت کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔

آپ نے فرمایا: علیٰ اور فاطمہؓ اور ان کے دونوں بیٹے۔<sup>۱</sup>

۱۔ شبیغی شافعی، نور الابصار، مطبوعہ مطبع عبد الحمید احمد حنفی، مصر

فخر الدین رازی، تفسیر کبیر ج ۲۷

زنگشی، تفسیر کشاف ج ۲

جب آیت إِنَّ الَّذِينَ أَمْنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَيْرُ  
الْبَرِّيَّةٌ ۝ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک کام کئے وہی خیر الخالق ہیں  
(سورہ بیتہ: آیت ۷) نازل ہوئی تو آنحضرت ﷺ نے امام علی مرتضیؑ سے  
فرمایا کہ یہ تم اور تمہارے شیعہ ہیں جو روز قیامت اس شان سے آئیں گے<sup>۱</sup>  
کہ وہ اللہ سے راضی اور اللہ ان سے راضی ہوگا جبکہ تمہارے دشمن کڑھتے  
اور تکلیف سے منہ بناتے آئیں گے۔

حضرت نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے:

جس کا خاتمہ آل محمدؐ کی محبت پر ہوا وہ شہید مرا۔

سن لو! جس کا خاتمہ آل محمدؐ کی محبت پر ہوا اس کی مغفرت ہو گئی۔

سن لو! جس کا خاتمہ آل محمدؐ کی محبت پر ہوا اس کی توبہ قبول ہو گئی۔

سن لو! جس کا خاتمہ آل محمدؐ کی محبت پر ہوا وہ کاملُ الایمان ہو کر مرا۔

سن لو! جس کا خاتمہ آل محمدؐ کی محبت پر ہوا اس کو پہلے ملکُ الموت اور پھر  
مُنکر و نکیر جنت کی بشارت دیں گے۔

سن لو! جس کا خاتمہ آل محمدؐ کی محبت پر ہوا وہ جنت میں اس طرح لے جایا  
جائے گا جیسے دہن اپنے شوہر کے گھر لے جائی جاتی ہے۔

سن لو! جس کا خاتمہ آل محمدؐ کی محبت پر ہوا اس کے لیے قبر میں دو

دروازے جنت کی طرف کھول دیئے جائیں گے۔

سن لو! جس کا خاتمہ آلِ محمدؐ کی محبت پر ہوا اس کا خاتمہ سُنّت پر اور مسلمانوں کے طریقے کے مطابق ہوا اور جس کا خاتمہ آلِ محمدؐ سے بُغض پر ہوا جب وہ روزِ حشر آئے گا تو اس کی آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا ”اللہ کی رحمت سے ناممیت۔“

سن لو! جس کا خاتمہ آلِ محمدؐ سے بُغض پر ہوا وہ کافر مرا۔  
سن لو! جو آلِ محمدؐ سے بُغض پر مرا وہ جنت کی بُو بھی نہیں سو گھے گا۔

## عقيقة اور قربانی

عقیقہ مستحب ہے۔ بعض لوگوں کا یہ خیال غلط ہے کہ عقيقة واجب ہے۔ عقيقة میں بعض باتیں مستحب ہیں اور بعض مکروہ۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ عقيقة کے بکرے کے تمام گوشت کے نکڑے کئے جائیں اور جانور جتنا فربہ ہوا تنا ہی بہتر۔

### عقیقہ کے مسائل

- (۱) مستحب ہے کہ عقيقة کا جانور موٹا تازہ اور بے عیب ہو۔
- (۲) بھیڑ، بکری، گائے اور اونٹ ذبح کئے جاسکتے ہیں لیکن افضل یہ ہے کہ مینڈھا یا دنبہ ہو۔
- (۳) مستحب ہے کہ ذبح کے وقت یہ دعا پڑھے:

يَقُولُ رَبِّيْ إِنِّيْ بَرِّيْ مِمَّا تُشَرِّكُونَ إِنِّيْ وَجَهْتُ وَجْهِيْ لِلَّذِيْ فَطَرَ  
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشَرِّكِينَ إِنَّ  
صَلَاتِي وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَلَّهِ وَ

بِذِلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ .

اللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ  
هُمَّ وَتَقَبَّلْ مِنْ فُلانَ بْنَ فُلانَ فُلانَ بْنَ فُلانَ کی جگہ نومولود کا  
نام لے پھر جانور ذبح کیا جائے ۔

(۴) مستحب ہے کہ عقیقہ کے گوشت نکے ٹکڑے کر کے چوتھائی حصہ دایہ کو  
دیدیا جائے ۔ باقی گوشت مومنین میں تقسیم کر دیا جائے ۔

(۵) افضل یہ ہے کہ گوشت پانی اور نمک ڈال کر پکایا جائے اور دعوت کی  
جائے ۔ بہتر یہ ہے کہ دس یا اس سے زیادہ مہمان مدعو کے جائیں ۔

(۶) عقیقہ کے گوشت میں سے باپ کو اور جن کا خرچ اس کے ذمے ہے  
ان سب کو کھانا مکروہ ہے ۔ احتیاط مستحب ہے کہ ماں بھی نہ کھائے ۔

(۷) اگر کسی کا عقیقہ نہیں ہوا تو مستحب یہ ہے کہ بالغ ہونے پر وہ اپنا عقیقہ  
خود کر لے ۔

(۸) اگر کسی کی طرف سے قربانی کردی گئی ہو تو وہ عقیقہ کا بدل ہو گئی ۔  
پھر عقیقہ کی ضرورت نہیں ۔

(۹) کسی میت کی طرف سے عقیقہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ۔

نوٹ : ہمیں اس بات کی کوئی سند نہیں ملی کہ ہڈیوں کو سفید کپڑے  
میں لپیٹ کر دفن کر دیا جائے جیسا کہ مشہور ہے ۔

چھری پر مشاورت کی بات بھی بے اصل ہے ۔

## قربانی

قربانی سنت ہے۔ ایک جانور کی قربانی میں دو یا دو سے زائد آدمی شریک ہو سکتے ہیں۔ کسی زندہ، مردہ، بڑے، بچے کی طرف سے کوئی دوسرا شخص بھی قربانی کر سکتا ہے۔ ناسجھ بچے کی طرف سے بھی قربانی ہو سکتی ہے مگر حمل کے بچے کی طرف سے نہیں ہو سکتی۔

## قربانی کے مسائل

(۱) قربانی کا وقت عید کے دن سورج طلوع ہونے کے بعد ہے۔ جو شخص عید کی نماز پڑھے اس کے لیے عید کی نماز کے بعد اور جو شخص عید کی نماز نہ پڑھے اس کے لیے قربانی کا وقت سورج بلند ہونے کے بعد سے تین دن تک رہتا ہے۔ منی میں چار دن تک قربانی ہو سکتی ہے۔

(۲) تین قسم کے مویشی یعنی بھیڑ بکری، گائے بیتل اور اونٹ، سینگوں والا مینڈھا یا دنبہ افضل ہے۔

(۳) واجب قربانی میں جو عمر اور سلیم الاعضاء ہونے کی شرط ہے وہ مستحب قربانی میں نہیں۔

(۴) قربانی کا گوشت کھانا اور کھلانا مستحب ہے۔